

Insta360 **Ace Pro**

Safety Guidelines

安全概要

EN · CN · DE · ES · FR · IT · NL · PL · PT · RU · JA · KO · TC · AR · HI · ID · MS · TH · VI · TR

Safety Information	1
安全信息	6
Sicherheitshinweise	10
Información de Seguridad	15
Informations relatives à la sécurité	20
Informazioni sulla Sicurezza	25
Veiligheidsinformatie	30
Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa	35
Informação de Segurança	40
Информация по технике безопасности	45
安全上の注意事項	50
안전 정보	55
安全資訊	59
معلومات السلامة	63
सुरक्षा संबंधी जानकारी	68
Informasi Kesela	72
Maklumat Keselamatan	77
ข้อมูลความปลอดภัย	82
Thông tin An toàn	86
Güvenlik Bilgileri	90

Safety Information

* Disclaimer

Please read this Disclaimer carefully. Using this product means that you acknowledge and accept the terms of this disclaimer. By using this product, you hereby acknowledge and agree that you are solely responsible for your own conduct when using this product and any consequences thereof. You agree to use this product only for proper and lawful purposes. You understand and agree that Arashi Vision Inc. (hereinafter referred to as 'Insta360') accepts no liability for any and all misuse, consequences, damages, injuries, penalties, or any other legal responsibility directly or indirectly incurred by your using this product and associated accessories. Before every use, make sure that your accessories are functioning properly. If there's any damage or irregularity, stop using them immediately. Within the scope of state laws and regulations, Insta360 reserves the right of final explanation and revision for the commitment.

Warnings

- ① This camera contains magnets. Make sure to keep it away from pacemakers and other devices to avoid interference.

- ② Before using the camera, ensure that: the battery is installed correctly, the Battery Cover and USB Cover are properly closed. The camera is not waterproof without these measures. In addition, ensure the camera is dry before removing the battery. If there is water in the Type-C port and TF card slot under the USB cover, open the USB cover, wipe it and let it dry naturally before use.
- ③ The camera should only be used in temperatures from -4°F to 104°F (-20°C to 40°C).
- ④ Do not charge the battery immediately after use, as the battery temperature may be too high. It is advised to wait until the battery cools to room temperature before charging. Charging the battery in environments above 104°F (40°C) or below 32°F (0°C) may lead to battery expansion, leakage, overheating, or battery damage.
- ⑤ The battery can be charged while installed in the camera, or via the Fast Charge Hub. Use a power adapter that complies with the charging specifications. Remember to disconnect the camera or battery after fully charged.
- ⑥ If the camera has not been used for three months or longer, the battery may be depleted. Please charge the camera to turn it on.
- ⑦ Do not leave the camera near heat sources such as a heater or cooker. Do not leave inside of a vehicle on hot days.
- ⑧ Do not drop or strike the camera and do not place heavy objects on it.
- ⑨ Do not store or transport camera batteries together with metal objects such as watches, keys, and jewelry.
- ⑩ If the battery falls into water, place it in a safe open area and keep away from the battery until

it is completely dry. Do not use the battery again.

- ① Do not use batteries that are deformed or show any signs of damage. Batteries cannot be disposed of together with household refuse. They must be placed in a designated recycling bin. Please abide by local regulations on battery recycling and dispose of the batteries contained in this product correctly.

Notes

- ① Dropping the camera may damage its internal components and cause it to perform abnormally.
- ② Keep the camera away from sand and dust.
- ③ Do not use in extreme weather conditions such as heavy storms.
- ④ Do not leave the camera or battery in an extremely hot or cold environment. Cold or high temperatures may temporarily shorten battery life or cause the camera to stop working.
- ⑤ Avoid dramatic temperature or humidity changes as condensation may form on or within the camera.
- ⑥ When using the Adhesive Mount, please attach the camera to dry, clean, flat surfaces only. The Flexible Adhesive Mount can be connected to a Standard Mount to install a camera. When engaging in high-speed or high-intensity environments, the Flexible Adhesive Mount should not be used with an extension pole, otherwise, your camera and accessories may fall off.
- ⑦ When using the Standard Mount in high-intensity action scenarios, ensure the camera is

secure and avoid violent impact to prevent it from falling or getting damaged.

- ⑧ To clean the camera, use only a soft dry cloth. Do not use any liquid cleaning products.
- ⑨ Store the camera in a dry environment.
- ⑩ If you are not planning to use the camera for a long time, it is recommended to remove the battery from the camera and store it separately.
- ⑪ It is prohibited to use batteries that are not officially supplied by Insta360. If you need to replace the battery, please purchase from the official Insta360 website or our recommended channels. Insta360 will not be responsible for battery accidents or product failures caused by the use of batteries not officially supplied by Insta360.

Specifications

Name	Insta360 Ace Pro
Model	CINSAAJA
Input	5-9V \equiv 3A Max
Bluetooth	Operation Frequency: 2402~2480MHz Transmitter Power (E.I.R.P.): < 10dBm
Wi-Fi	2.4GHz WIFI: 2400~2483MHz Operation Frequency: 5.1GHz WIFI: 5150~5250MHz 5.8GHz WIFI: 5725~5850MHz
	2.4GHz WIFI: < 13dBm Antenna (E.I.R.P.): 5.1GHz WIFI: < 13dBm 5.8GHz WIFI: < 13dBm
Battery	Capacity: 1650 mAh Energy: 6.35 Wh
Operating temperature	-20°C to 40°C
Charging temperature	0°C to 40°C
Operating humidity	\leq 80%RH

安全信息

免责声明

请仔细阅读本声明，一旦使用本产品，即视为对本声明的全部认可和接受。每次使用前，请仔细检查产品，若出现破损、变形，请勿使用。使用本产品，就意味着您认可并同意，您将对使用本产品的行为和可能产生的后果负全部责任。您承诺仅会出于正当合法的目的使用本产品。您理解并同意，对于直接或间接因使用本产品而造成的滥用、不利影响、损害、伤害、惩罚或者其他法律后果，影石创新科技股份有限公司（以下简称“影石 Insta360”）将不承担任何责任。用户应遵循包括但不限于本文提及的使用注意事项。在国家法律法规范围内，本承诺解释权、修改权归影石 Insta360 所有。

警告

- ① 本产品含有磁铁，为免受磁化影响，请远离心脏起搏器等易受干扰设备。
- ② 使用前，请确保电池安装到位，并确保电池仓保护盖及 USB 保护盖已完全锁紧，防止产品进水。机身表面有水时，必须先擦干才能进行拆卸电池等操作。USB 盖内的 Type-C 接口、TF 卡槽等位置有水时，需要擦干，静置后再使用。
- ③ 请在温度为 -20°C ~ 40°C 的环境中使用和存放产品。
- ④ 刚结束使用的电池处于高温状态，请等待电池降至室温后再充电。充电环境温度高于 40°C

或低于 0°C，可能导致电池性能下降、膨胀、漏液、过热等损坏。

- ⑤ 电池必须通过相机或充电管家进行充电。必须使用符合充电规格的电源适配器。充电完成后，请断开电池与充电器的连接。
- ⑥ 若长时间不使用（如三个月），电池电量或耗尽，请及时给产品充电并开机，以免电池过放造成电芯损坏。
- ⑦ 禁止将相机与电池放在靠近热源之处（火炉或加热器等）以及将产品置于热天的汽车内。
- ⑧ 禁止机械撞击、碾压、或抛掷相机与电池。请勿在相机与电池上放置重物。
- ⑨ 请勿将电池与手表、钥匙、首饰等金属物体一起存储或运输。
- ⑩ 请在干燥的环境中存储相机，防止相机起雾。
- ⑪ 若电池进水，请立即拆下电池并将其置于安全的开阔区域，远离电池直至完全晾干。晾干的电池不可再使用。
- ⑫ 禁止使用鼓包、破损或漏液的电池。废弃的电池不能与生活垃圾一同弃置，须置于指定的电池回收箱。请自行了解与遵守当地关于电池回收的规定，正确弃置本产品所含的电池。

注意

- ① 摔落或碰撞可能会损坏产品，导致工作异常。
- ② 使用相机时，请注意防尘防沙。
- ③ 雷雨天气请勿使用相机。
- ④ 请勿将相机与电池放在极冷或极热的环境中。低温或高温条件可能会暂时缩短电池的使用寿命，或导致相机暂时停止正常工作。
- ⑤ 使用相机时，应避免温度或湿度出现急剧变化，否则可能会在相机表面或内部引发冷凝现象。

- ⑥ 使用柔性黏贴底座时，请将其粘贴至干燥、干净、平整表面。柔性黏贴底座可以转接快拆底座后安装相机。高强度运动时，柔性黏贴底座不可以连接延长杆使用，否则相机或配件会有脱落的风险。
- ⑦ 高强度运动下使用快拆底座时，请确保按压扣合到位，避免剧烈撞击，以防相机意外掉落损坏。
- ⑧ 请勿对其使用任何带清洁功能的液体。建议使用柔软的干布清洁。
- ⑨ 请勿自行拆解和维修相机与电池。
- ⑩ 长期不使用时，尽量将电池从相机中取出，单独存储。
- ⑪ 禁止使用非 Insta360 官方提供的电池。如需更换新电池，请在 Insta360 官网或指定渠道购买。因使用非 Insta360 官方提供的电池而引发的电池事故及产品故障，Insta360 不予负责。

规格

产品名称	Insta360 Ace Pro
产品型号	CINSAAJA
充电输入	5-9V = 3A Max
蓝牙	工作频率: 2402~2480MHz 输出: <10dBm
Wi-Fi	工作频率: 2.4GHz WIFI: 2400~2483MHz 5.1GHz WIFI: 5150~5250MHz 5.8GHz WIFI: 5725~5850MHz
	发射功率 (EIRP): 2.4GHz WIFI: <13dBm 5.1GHz WIFI: <13dBm 5.8GHz WIFI: <13dBm
电池	电容量: 1650 mAh 能量: 6.35 Wh
工作环境温度	-20°C至 40°C
充电环境温度	0°C至 40°C
工作环境湿度	≤ 80%RH

Sicherheitshinweise

* Haftungsausschluss

Bitte lies dir diesen Haftungsausschluss sorgfältig durch. Mit der Nutzung dieses Produkts erkennst du die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an und akzeptierst sie. Durch die Nutzung dieses Produkts erkennst du hiermit an und erklärst dich damit einverstanden, dass du allein für dein eigenes Verhalten bei der Nutzung dieses Produkts und für alle daraus resultierenden Folgen verantwortlich bist. Du bestätigst, dass du dieses Produkt nur für ordnungsgemäße und rechtmäßige Zwecke einsetzt. Du nimmst zur Kenntnis und erklärst dich damit einverstanden, dass Arashi Vision Inc. (im Folgenden als "Insta360" bezeichnet) keine Haftung für jeglichen Missbrauch, Folgen, Schäden, Verletzungen, Strafen oder andere rechtliche Verantwortung übernimmt, die direkt oder indirekt durch die Verwendung dieses Produkts und des dazugehörigen Zubehörs entstehen. Vergewissere dich vor jedem Einsatz, dass deine Zubehörteile richtig funktionieren. Wenn etwas beschädigt ist oder Unregelmäßigkeiten aufweist, solltest du den Gebrauch sofort einstellen. Im Rahmen der staatlichen Gesetze und Vorschriften behält sich Insta360 das Recht auf abschließende Erläuterungen und Überarbeitung der Vereinbarung vor.

Warnhinweise

- ① Diese Kamera enthält Magnete. Achte darauf, sie von Herzschrittmachern und anderen Geräten fernzuhalten, um Störungen zu vermeiden.
- ② Vor der Benutzung der Kamera solltest du sicherstellen, dass der Akku richtig eingesetzt ist und die Akku- und USB-Abdeckungen sicher geschlossen sind. Andernfalls ist die Kamera nicht wasserdicht. Außerdem muss die Kamera trocken sein, bevor du den Akku herausnimmst. Sollte sich im USB-C-Anschluss und microSD-Kartensteckplatz unter der USB-Abdeckung Wasser befinden, öffne die USB-Abdeckung, wische alles ab und lass es vor der nächsten Benutzung an der Luft trocknen.
- ③ Die Kamera sollte nur bei Temperaturen von -20 °C bis 40 °C verwendet werden.
- ④ Lade den Akku nicht direkt nach der Benutzung, da die Temperatur des Akkus zu hoch sein könnte. Du solltest den Akku vor dem Aufladen auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Das Aufladen des Akkus bei über 40°C oder unter 0°C Umgebungstemperatur kann zu Aufblähen, Auslaufen, Überhitzung oder Beschädigung des Akkus führen.
- ⑤ Der Akku kann sowohl geladen werden, wenn er in der Kamera installiert ist, als auch über den Schnelllade-Hub. Verwende ein Netzteil, das den Ladespezifikationen entspricht. Denk daran, die Kamera oder den Akku nach vollständigem Aufladen vom Strom zu nehmen.
- ⑥ Wenn die Kamera drei Monate oder länger nicht benutzt wurde, könnte sich der Akku entleert haben. Bitte lade die Kamera, um sie einschalten zu können.
- ⑦ Lass die Kamera nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungen oder Öfen liegen. Lass sie an heißen Tagen auch nicht in Fahrzeugen liegen.

- ⑧ Lass die Kamera nicht fallen, schlage nicht dagegen und stelle keine schweren Gegenstände darauf.
- ⑨ Lagere oder transportiere Kamera-Akkus nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Uhren, Schlüsseln oder Schmuck.
- ⑩ Sollte der Akku ins Wasser fallen, lege ihn an einen sicheren, gut belüfteten Ort und lass ihn dort liegen, bis er vollständig trocken ist. Verwende den Akku nicht erneut.
- ⑪ Verwende keine Akkus, die sich verformt haben oder Anzeichen von Schäden aufweisen. Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen in einem entsprechenden Recyclingbehälter entsorgt werden. Bitte halte dich an die lokalen Vorschriften bezüglich des Akku-Recyclings und entsorge die in diesem Produkt enthaltenen Akkus ordnungsgemäß.

Anmerkungen

- ① Wenn die Kamera herunterfällt, können interne Komponenten beschädigt werden, was zu Funktionsstörungen führen kann.
- ② Halte die Kamera von Sand und Staub fern.
- ③ Verwende sie nicht bei Extremwetter-Ereignissen wie schweren Stürmen.
- ④ Lass die Kamera oder den Akku nicht in extrem heißer oder kalter Umgebung liegen. Kalte oder heiße Temperaturen können die Akku-Laufzeit vorübergehend reduzieren oder dazu führen, dass die Kamera nicht mehr funktioniert.
- ⑤ Vermeide drastische Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsschwankungen, da sich sonst Kondenswasser auf oder in der Kamera bilden kann.

- ⑥ Befestige die Kamera nur an trockenen, sauberen und flachen Oberflächen, wenn du die Klebehalterung verwendest. Du kannst die Flexible Klebehalterung an einer Standard-Halterung befestigen, um die Kamera anzubringen. In Szenarien mit hoher Geschwindigkeit oder hoher Intensität solltest du die Flexible Klebehalterung nicht in Verbindung mit einer Verlängerungsstange verwenden, da deine Kamera und das Zubehör sonst herunterfallen könnten.
- ⑦ Wenn du die Standard-Halterung in intensiven Action-Szenarien verwendest, solltest du dich vergewissern, dass die Kamera sicher befestigt ist, und heftige Stöße vermeiden, damit sie nicht herunterfällt oder beschädigt wird.
- ⑧ Verwende zum Reinigen der Kamera ausschließlich ein weiches, trockenes Tuch. Verwende keine flüssigen Reinigungsmittel.
- ⑨ Bewahre die Kamera an einem trockenen Ort auf.
- ⑩ Wenn du beabsichtigst, die Kamera längere Zeit nicht zu benutzen, solltest du den Akku aus der Kamera nehmen und ihn separat aufbewahren.
- ⑪ Es ist verboten, Akkus zu verwenden, die nicht offiziell von Insta360 stammen. Wenn du den Akku ersetzen musst, kaufe ihn bitte auf der offiziellen Insta360 Website oder bei unseren empfohlenen Händlern. Insta360 übernimmt keine Haftung für Akku-Unfälle oder Produktausfälle, die durch die Verwendung von Akkus verursacht werden, die nicht offiziell von Insta360 stammen.

Spezifikationen

Name	Insta360 Ace Pro
Modell	CINSAAJA
Stromeingang	5-9V \equiv 3A Max
Bluetooth	Betriebsfrequenz: 2402~2480 MHz Sendeleistung (E.I.R.P.): < 10 dBm
Wi-Fi	2,4 GHz Wi-Fi: 2400~2483 MHz Betriebsfrequenz: 5,1 GHz Wi-Fi: 5150~5250 MHz; 5,8 GHz Wi-Fi: 5725~5850 MHz
	2,4 GHz Wi-Fi: < 13 dBm; Antenne (E.I.R.P.): 5,1 GHz Wi-Fi: < 13 dBm; 5,8 GHz Wi-Fi: < 13 dBm.
Akku	Kapazität: 1650 mAh Strommenge: 6.35 Wh
Betriebstemperatur	-20°C bis 40°C
Ladetemperatur	0°C bis 40°C
Betriebs-Luftfeuchtigkeit	\leq 80 % RH

Información de seguridad

* Descargo de responsabilidad

Lee atentamente esta cláusula de exención de responsabilidad. El uso de este producto implica que reconoces y aceptas los términos de esta cláusula de exención de responsabilidad.

Al utilizar este producto, reconoces y aceptas que eres el único responsable de tu propia conducta al utilizar este producto y de cualquier consecuencia de la misma. Te comprometes a utilizar este producto únicamente para fines adecuados y lícitos. Entiendes y aceptas que Arashi Vision Inc. (en lo sucesivo "Insta360") no acepta ninguna responsabilidad por cualquier y todo mal uso, consecuencias, daños, lesiones, sanciones o cualquier otra responsabilidad legal directa o indirectamente incurrida por el uso de este producto y accesorios asociados. Antes de cada uso, asegúrate de que tus accesorios funcionan correctamente. Si hay algún daño o irregularidad, deja de usarlos inmediatamente. En el ámbito de las leyes y reglamentos estatales, Insta360 se reserva el derecho de explicación final y revisión para el compromiso.

Advertencias

- ① Esta cámara contiene imanes. Asegúrate de mantenerlo alejado de marcapasos y otros dispositivos para evitar interferencias.
- ② Avant d'utiliser la caméra, assurez-vous que : la batterie est correctement installée, le cache

de la batterie et le cache de l'USB sont correctement fermés. La caméra n'est pas étanche sans ces mesures. En outre, assurez-vous que la caméra est sèche avant de retirer la batterie. S'il y a de l'eau dans le port Type-C et le logement de la carte TF sous le cache USB, ouvrez le cache USB, essuyez-le et laissez-le sécher à l'air libre avant de l'utiliser.

- ③ La cámara sólo debe utilizarse a temperaturas comprendidas entre -20 °C y 40 °C.
- ④ No cargues la batería inmediatamente después de su uso, ya que la temperatura de la batería puede ser demasiado alta. Se recomienda esperar a que la batería se enfríe a temperatura ambiente antes de cargarla. Cargar la batería en entornos con temperaturas superiores a 40 °C o inferiores a 0 °C puede provocar la dilatación de la batería, fugas, sobrecalentamiento o daños en la batería.
- ⑤ La batería se puede cargar mientras está instalada en la cámara o a través del Fast Charge Hub. Utiliza un adaptador de corriente que cumpla las especificaciones de carga. Recuerda desconectar la cámara o la batería después de cargarla completamente.
- ⑥ Si la cámara no se ha utilizado durante tres meses o más, la batería puede estar agotada. Carga la cámara para encenderla.
- ⑦ No dejes la cámara cerca de fuentes de calor como un calefactor o una cocina. No la dejes en el interior de un vehículo en días calurosos.
- ⑧ No dejes caer ni golpees la cámara y no coloques objetos pesados sobre ella.
- ⑨ No guardes ni transportes las pilas de la cámara junto con objetos metálicos como relojes, llaves y joyas.
- ⑩ Si la batería cae al agua, colócala en una zona abierta segura y manténte alejado de la

batería hasta que esté completamente seca. No vuelvas a utilizar la batería.

- ① No utilices baterías deformadas o que presenten signos de deterioro. Las baterías no pueden eliminarse junto con la basura doméstica. Deben depositarse en un contenedor de reciclaje designado. Respeta la normativa local sobre reciclaje de baterías y desecha correctamente las baterías contenidas en este producto.

Notes

- ① Dejar caer la cámara puede dañar sus componentes internos y provocar un funcionamiento anormal.
- ② Mantén la cámara alejada de la arena y el polvo.
- ③ No utilizar en condiciones meteorológicas extremas, como fuertes tormentas.
- ④ No dejes la cámara ni la batería en un ambiente extremadamente cálido o frío. El frío o las altas temperaturas pueden acortar temporalmente la duración de la batería o hacer que la cámara deje de funcionar.
- ⑤ Evita los cambios bruscos de temperatura o humedad, ya que podría formarse condensación en la cámara o en su interior.
- ⑥ Cuando utilices la montura adhesiva, fija la cámara únicamente a superficies secas, limpias y planas. La montura adhesiva flexible puede conectarse a un soporte para instalar una cámara. Cuando se trabaje en entornos de alta velocidad o alta intensidad, la montura adhesiva flexible no debe utilizarse con un poste de extensión, de lo contrario, la cámara y los accesorios podrían caerse.

- ⑦ Cuando utilices la montura estándar en escenarios de acción de alta intensidad, asegúrate de que la cámara está bien sujeta y evita los impactos violentos para evitar que se caiga o sufra daños.
- ⑧ Pour nettoyer la caméra, utilisez uniquement un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de produits de nettoyage liquides.
- ⑨ Conservez la caméra dans un environnement sec.
- ⑩ Si no tienes previsto utilizar la cámara durante mucho tiempo, se recomienda extraer la batería de la cámara y guardarla por separado.
- ⑪ Está prohibido utilizar baterías que no sean las suministradas oficialmente por Insta360. Si necesitas sustituir la batería, comprala en la página web oficial de Insta360 o en nuestros canales recomendados. Insta360 no se hace responsable de los accidentes o fallos del producto causados por el uso de baterías no suministradas oficialmente por Insta360.

Especificaciones

Nombre	Insta360 Ace Pro
Modelo	CINSAAJA
Entrada	5-9V = 3A Max
Bluetooth	Frecuencia de funcionamiento: 2402~2480MHz Potencia del transmisor (E.I.R.P.): < 10dBm
Wi-Fi	2.4GHz WIFI: 2400~2483MHz Frecuencia de funcionamiento: 5.1GHz WIFI: 5150~5250MHz 5.8GHz WIFI: 5725~5850MHz 2.4GHz WIFI: < 13dBm Antena (E.I.R.P.): 5.1GHz WIFI: < 13dBm 5.8GHz WIFI: < 13dBm
Batería	Capacidad: 1650 mAh Energía: 6.35 Wh
Temperatura de funcionamiento	-20°C to 40°C
Temperatura de carga	0°C to 40°C
Humedad de funcionamiento	≤80%HR

Informations relatives à la sécurité

* Clause de non-responsabilité

Veillez lire attentivement cette clause de non-responsabilité. L'utilisation de ce produit signifie que vous reconnaissez et acceptez les termes de cette clause de non-responsabilité. En utilisant ce produit, vous reconnaissez et acceptez par la présente que vous êtes seul responsable de votre propre conduite lors de l'utilisation de ce produit et de toutes les conséquences qui en découlent. Vous acceptez d'utiliser ce produit uniquement à des fins appropriées et légales. Vous comprenez et acceptez qu'Arashi Vision Inc. (ci-après dénommé « Insta360 ») n'accepte aucune responsabilité pour toute utilisation abusive, conséquences, dommages, blessures, pénalités ou toute autre responsabilité légale encourue directement ou indirectement par votre utilisation de ce produit et des accessoires associés. Avant chaque utilisation, assurez-vous que vos accessoires fonctionnent correctement. S'il y a des dommages ou des irrégularités, arrêtez de les utiliser immédiatement. Dans le cadre des lois et règlements de l'État, Insta360 se réserve le droit d'explication finale et de révision de l'engagement.

Avertissements

- ① Cette caméra contient des aimants. Veillez à l'éloigner des stimulateurs cardiaques et autres
- 20

appareils pour éviter les interférences.

- ② Avant d'utiliser la caméra, assurez-vous que : la batterie est correctement installée, le cache de la batterie et le cache de l'USB sont correctement fermés. La caméra n'est pas étanche sans ces mesures. En outre, assurez-vous que la caméra est sèche avant de retirer la batterie. S'il y a de l'eau dans le port Type-C et le logement de la carte TF sous le cache USB, ouvrez le cache USB, essuyez-le et laissez-le sécher à l'air libre avant de l'utiliser.
- ③ La caméra ne doit être utilisée qu'à des températures comprises entre -20°C et 40°C.
- ④ Ne chargez pas la batterie immédiatement après utilisation, car la température de la batterie peut être trop élevée. Il est conseillé d'attendre que la batterie refroidisse à température ambiante avant de la recharger. Charger la batterie dans des environnements au-dessus de 40°C ou en dessous de 0°C peut entraîner une dilatation de la batterie, une fuite, une surchauffe ou un endommagement de la batterie.
- ⑤ La batterie peut être chargée lorsqu'elle est installée dans la caméra ou via le concentrateur de charge rapide. Utilisez un adaptateur secteur conforme aux spécifications de charge. N'oubliez pas de déconnecter la caméra ou la batterie après une charge complète.
- ⑥ Si la caméra n'a pas été utilisée pendant trois mois ou plus, la batterie peut être épuisée. Veuillez charger la caméra pour l'allumer.
- ⑦ Ne laissez pas la caméra à proximité de sources de chaleur telles qu'un radiateur ou une cuisinière. Ne la laissez pas à l'intérieur d'un véhicule par temps chaud.
- ⑧ Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas la caméra et ne placez pas d'objets lourds dessus.
- ⑨ Ne stockez pas et ne transportez pas les batteries de l'appareil avec des objets métalliques

tels que des montres, des clés ou des bijoux.

- ⑩ Si la batterie tombe dans l'eau, placez-la dans un endroit sûr et à l'écart de la batterie jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche. N'utilisez plus la batterie.
- ⑪ N'utilisez pas de batteries déformées ou présentant des signes de détérioration. Les batteries ne peuvent pas être jetées avec les ordures ménagères. Elles doivent être placées dans un bac de recyclage désigné. Veuillez respecter les réglementations locales sur le recyclage des batteries et éliminer correctement les batteries contenues dans ce produit.

Remarques

- ① La chute de la caméra peut endommager ses composants internes et entraîner un fonctionnement anormal de l'appareil.
- ② Tenez la caméra éloignée du sable et de la poussière.
- ③ Ne pas utiliser dans des conditions météorologiques extrêmes telles que de fortes tempêtes.
- ④ Ne laissez pas la caméra ou la batterie dans un environnement extrêmement chaud ou froid. Des températures froides ou élevées peuvent raccourcir temporairement la durée de vie de la batterie ou empêcher la caméra de fonctionner.
- ⑤ Évitez les changements brusques de température ou d'humidité car de la condensation peut se former sur ou à l'intérieur de l'appareil.
- ⑥ Lorsque vous utilisez le support adhésif, veuillez fixer la caméra uniquement sur des surfaces sèches, propres et planes. Le support adhésif flexible peut être connecté à

un support standard pour installer une caméra. Lorsque vous vous engagez dans des environnements à haute vitesse ou à haute intensité, le support adhésif flexible ne doit pas être utilisé avec une perche d'extension, sinon votre caméra et ses accessoires pourraient tomber.

- ⑦ Lorsque vous utilisez le support standard dans des situations d'action intense, assurez-vous que la caméra est bien fixée et évitez les chocs violents afin d'éviter qu'elle ne tombe ou ne soit endommagée.
- ⑧ Pour nettoyer la caméra, utilisez uniquement un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de produits de nettoyage liquides.
- ⑨ Conservez la caméra dans un environnement sec.
- ⑩ Si vous prévoyez de ne pas utiliser la caméra pendant une longue période, il est recommandé de retirer la batterie de l'appareil et de la ranger séparément.
- ⑪ Il est interdit d'utiliser des batteries qui ne sont pas officiellement fournies par Insta360. Si vous devez remplacer la batterie, veuillez acheter sur le site Web officiel d'Insta360 ou sur nos canaux recommandés. Insta360 ne sera pas responsable des accidents de batterie ou des pannes de produit causés par l'utilisation de batteries non officiellement fournies par Insta360.

Caractéristiques

Nom	Insta360 Ace Pro
Modèle	CINSAAJA
Alimentation	5-9V = 3A Max
Bluetooth	Fréquence de fonctionnement : 2402~2480MHz Puissance de l'émetteur (E.I.R.P.) : < 10dBm
Wi-Fi	2.4GHz WIFI: 2400~2483MHz Fréquence de fonctionnement : 5.1GHz WIFI: 5150~5250MHz 5.8GHz WIFI: 5725~5850MHz
	2.4GHz WIFI: < 13dBm Antenne (E.I.R.P.) : 5.1GHz WIFI: < 13dBm 5.8GHz WIFI: < 13dBm
Batterie	Capacité : 1650 mAh Énergie : 6.35 Wh
Température de fonctionnement	-20°C à 40°C
Température de charge	0°C à 40°C
Humidité de fonctionnement	≤80%RH

Informazioni sulla Sicurezza

* Avvertenze

Assicurati di leggere attentamente le avvertenze. Utilizzando questo prodotto acconsenti e riconosci di accettare i termini di queste avvertenze. L'utente riconosce e accetta di essere l'unico responsabile della maniera in cui viene utilizzato il prodotto e delle relative conseguenze. Accetti di utilizzare questo prodotto solo per scopi corretti e leciti. Riconosci e accetti che Arashi Vision Inc. (di seguito denominata "Insta360") non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi uso improprio, conseguenza, danno, lesione, o qualsiasi altra responsabilità legale direttamente o indirettamente derivata dall'utilizzo di questo prodotto. Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che il prodotto funzioni correttamente. In caso di danni o irregolarità, interrompere immediatamente l'uso. Nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, Insta360 si riserva il diritto di fornire spiegazioni e di revisione finale.

Attenzione

- ① Questa videocamera contiene dei magneti. Tienili lontano da pacemaker e altri dispositivi per evitare interferenze.
- ② Prima di utilizzare la videocamera, assicurati che la batteria sia installata correttamente

e che il coperchio della batteria e della porta USB siano chiusi. La videocamera non è impermeabile senza queste misure di sicurezza. Inoltre, assicurati che la videocamera sia completamente asciutta prima di rimuovere la batteria. Se c'è dell'acqua nella porta USB e nello slot della scheda TF sotto il coperchio USB, apri quest'ultimo, puliscilo e lascialo asciugare naturalmente prima di utilizzarlo.

- ③ La videocamera deve essere utilizzata a temperature comprese tra -20°C e 40°C.
- ④ Non caricare la batteria della videocamera subito dopo l'utilizzo, attendi un momento prima che torni a temperatura ambiente. Aspetta che la batteria si raffreddi prima di caricarla. La ricarica della batteria a temperature superiori a 40°C o sotto lo 0°C può causare l'espansione della batteria, perdite, surriscaldamento o danni.
- ⑤ La batteria può essere caricata mentre è installata nella videocamera, oppure tramite l'Hub di ricarica rapida. Usa un adattatore di corrente che sia conforme alle specifiche di ricarica. Ricordati di scollegare la batteria dopo averla caricata completamente.
- ⑥ Se la videocamera non viene utilizzata per un lungo periodo (ad esempio 3 mesi o di più), la batteria può esaurirsi. Carica la videocamera prima di accenderla.
- ⑦ Non lasciare il prodotto vicino a fonti di calore come il forno o i termosifoni. Non lasciare il prodotto all'interno di un veicolo nelle giornate calde.
- ⑧ Non far cadere e non appoggiare oggetti pesanti sulla videocamera.
- ⑨ Non conservare o trasportare le batterie delle videocamere insieme a oggetti metallici come orologi, chiavi e gioielli.
- ⑩ Se la batteria cade in acqua, mettila in un'area aperta e sicura fino a quando non sarà

completamente asciutta. Non utilizzare più la batteria.

- ① Non utilizzare batterie deformate o che presentano segni di danneggiamento. Le batterie non possono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Devono essere inseriti in un apposito cestino per il riciclaggio. Rispetta le normative locali sul riciclaggio per lo smaltimento corretto delle batterie contenute in questo prodotto.

Note

- ① Non far cadere la videocamera per evitare eventuali danneggiamenti alle componenti interni e provocare prestazioni anomale.
- ② Tieni la videocamera lontana da sabbia e polvere.
- ③ Non utilizzare in condizioni meteorologiche estreme come forti temporali.
- ④ Non lasciare la videocamera o la batteria in un ambiente estremamente caldo o freddo. Il freddo o le alte temperature possono ridurre temporaneamente la durata della batteria o causare un arresto anomalo della videocamera.
- ⑤ Evita forti sbalzi di temperatura o di umidità perché potrebbe formarsi della condensa sulla o all'interno della videocamera.
- ⑥ Quando utilizzi il Supporto Adesivo, posiziona la videocamera solo su superfici piane, pulite e asciutte. Il Supporto Adesivo Flessibile può essere collegato a un Supporto Standard per installare una videocamera. Il Supporto Adesivo Flessibile non deve essere utilizzato con un selfie stick, specialmente se in situazioni che comportano alta velocità/intensità, altrimenti la videocamera e gli accessori potrebbero sganciarsi e cadere.

- ⑦ Quando si utilizza il supporto Standard con una videocamera in scenari ad alta intensità di azione, si consiglia di proteggerla utilizzando delle protezioni per quest'ultima al fine di evitare cadute o danni accidentali.
- ⑧ Per pulire la videocamera, utilizza solamente un panno morbido e asciutto. Non utilizzare nessun tipo di detergente liquido.
- ⑨ Riponi la videocamera in un luogo asciutto.
- ⑩ Se non intendi utilizzare la videocamera per un lungo periodo tempo, assicurati di rimuovere la batteria e custodiscila separatamente.
- ⑪ È severamente vietato utilizzare batterie diverse da quelle originali Insta360. Se hai bisogno di sostituire la batteria, comprala sul sito ufficiale di Insta360 o attraverso i nostri rivenditori autorizzati. Insta360 non è responsabile di incidenti e guasti causati dall'utilizzo di batterie non originali;

Specifiche

Nome	Insta360 Ace Pro
Modello	CINSAAJA
Ingresso	5-9V \equiv 3A Max
Bluetooth	Frequenza operativa: 2402~2480MHz Potenza del trasmettitore (E.I.R.P.): < 10dBm
Wi-Fi	2.4GHz WIFI: 2400~2483MHz Frequenza operativa: 5.1GHz WIFI: 5150~5250MHz 5.8GHz WIFI: 5725~5850MHz
	2.4GHz WIFI: < 13dBm Antenna (E.I.R.P.): 5.1GHz WIFI: < 13dBm 5.8GHz WIFI: < 13dBm
Batteria	Capacità: 1650 mAh Energia: 6.35 Wh
Temperatura di funzionamento	-20°C a 40°C
Temperatura di ricarica	0°C to 40°C
Umidità operativa	≤80%RH

Veiligheidsinformatie

* Disclaimer

Lees deze disclaimer zorgvuldig. Het gebruik van dit product betekent dat u de voorwaarden van deze disclaimer erkent en accepteert. Door dit product te gebruiken, erkent u en stemt u ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor uw eigen gedrag bij het gebruik van dit product en de eventuele gevolgen daarvan. U stemt ermee in dit product alleen te gebruiken voor de juiste en wettige doeleinden. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat Arashi Vision Inc. (hierna te noemen 'Insta360') geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enigerlei verkeerd gebruik, gevolgen, schade, letsel, boetes of enige andere wettelijke verantwoordelijkheid direct of indirect opgelopen door jouw gebruik van dit product en bijbehorende accessoires. Controleer voor elk gebruik of de accessoires goed functioneren. Als er schade of onregelmatigheden zijn, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan. In het kader van de staatswet- en regelgeving behoudt Insta360 zich het recht voor op een definitieve verklaring en herziening van de verbintenis.

Waarschuwingen

- ① Deze camera bevat magneten. Zorg ervoor dat je deze uit de buurt houdt van pacemakers en andere apparaten om interferentie te voorkomen.

- ② Voordat u de camera gebruikt, zorg ervoor dat: de batterij correct is geïnstalleerd, het batterijklepje en de USB-klep goed zijn gesloten. De camera is niet waterdicht zonder deze maatregelen. Zorg er ook voor dat de camera droog is voordat u de batterij verwijdt. Als er water in de Type-C-poort en TF-kaartsleuf onder de USB-klep zit, open dan de USB-klep, veeg het af en laat het vanzelf drogen voordat u het gebruikt.
- ③ Gebruik de camera alleen bij temperaturen van -20°C tot 40°C (-4°F tot 104°F).
- ④ Laad de batterij niet onmiddellijk op na gebruik, want dan kan de batterijtemperatuur te hoog oplopen. U kunt het beste wachten met opladen tot de batterij is afgekoeld tot kamertemperatuur. Het opladen van de batterij in omgevingen boven 40°C (104°F) of onder 0°C (32°F) kan leiden tot uitzetting van de batterij, lekkage, oververhitting of schade aan de batterij.
- ⑤ De batterij kan worden opgeladen terwijl deze in de camera is geïnstalleerd of via de Fast Charge Hub. Gebruik een voedingsadapter die voldoet aan de oplaadspecificaties. Vergeet niet de camera of batterij los te koppelen nadat deze volledig is opgeladen.
- ⑥ Als de camera drie maanden of langer niet is gebruikt, kan de batterij leeg zijn. Laad de camera op om hem aan te zetten.
- ⑦ Laat de camera niet in de buurt van warmtebronnen zoals een verwarming of fornuis. Laat de camera niet achter in een voertuig op hete dagen.
- ⑧ Laat de camera niet vallen, sla er niet mee en plaats er geen zware voorwerpen op.
- ⑨ Bewaar of vervoer de batterijen van de camera niet samen met metalen voorwerpen zoals

horloges, sleutels en sieraden.

- ⑩ Als de batterij in het water valt, plaats deze dan in een veilige open ruimte en blijf uit de buurt van de batterij totdat deze volledig droog is. Gebruik de batterij niet meer.
- ⑪ Gebruik geen batterijen die vervormd zijn of tekenen van schade vertonen. Batterijen mogen niet samen met huisvuil worden weggegooid. Ze moeten in een daarvoor bestemde recyclebak worden geplaatst. Houd u aan de plaatselijke voorschriften voor het recyclen van batterijen en gooi de batterijen in dit product op de juiste manier weg.

Opmerking

- ① Het laten vallen van de camera kan de interne onderdelen beschadigen en ervoor zorgen dat deze abnormaal functioneert.
- ② Houd de camera uit de buurt van zand en stof.
- ③ Niet gebruiken bij extreme weersomstandigheden, zoals zware stormen.
- ④ Laat de camera of batterij niet achter in een extreem warme of koude omgeving. Koude of hoge temperaturen kunnen de levensduur van de batterij tijdelijk verkorten of ervoor zorgen dat de camera niet meer werkt.
- ⑤ Vermijd grote temperatuur- of vochtigheidsschommelingen, want dan kan er zich condens vormen op of in de camera.
- ⑥ Bevestig de camera bij gebruik van de zelfklevende bevestiging alleen op droge, schone, vlakke oppervlakken. De flexibele zelfklevende bevestiging kan worden aangesloten op een standaard bevestiging om een camera te installeren. Bij gebruik in omgevingen met hoge

snelheden of hoge intensiteit mag de flexibele zelfklevende bevestiging niet worden gebruikt met een verlengstuk, anders kunnen de camera en accessoires eraf vallen.

- ⑦ Bij het gebruik van de standaardbevestiging in situaties met hoge intensiteit, zorg ervoor dat de camera stevig is bevestigd en vermijd hevige impact om te voorkomen dat deze valt of beschadigd raakt.
- ⑧ Om de camera schoon te maken, gebruik alleen een zachte droge doek. Gebruik geen vloeibare reinigingsproducten.
- ⑨ Bewaar de camera in een droge omgeving.
- ⑩ Als u van plan bent de camera lange tijd niet te gebruiken, is het aan te raden de batterij uit de camera te halen en apart op te bergen.
- ⑪ Het is verboden batterijen te gebruiken die niet officieel door Insta360 zijn geleverd. Als je de batterij moet vervangen, koop dan van de officiële Insta360 website of onze aanbevolen kanalen. Insta360 is niet verantwoordelijk voor batterij ongelukken of product defecten veroorzaakt door het gebruik van batterijen die niet officieel door Insta360 zijn geleverd.

Specificaties

Naam	Insta360 Ace Pro
Model	CINSAAJA
Input	5-9V \equiv 3A Max
Bluetooth	Verrichtingsfrequentie: 2402~2480MHz Zendervermogen (E.I.R.P.): < 10dBm
Wi-Fi	2.4GHz WIFI: 2400~2483MHz Verrichtingsfrequentie: 5.1GHz WIFI: 5150~5250MHz 5.8GHz WIFI: 5725~5850MHz
	2.4GHz WIFI: < 13dBm Antenne (E.I.R.P.): 5.1GHz WIFI: < 13dBm 5.8GHz WIFI: < 13dBm
Batterij	Capaciteit: 1650 mAh Energie: 6.35 Wh
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot 40°C
Oplaadtemperatuur	0°C tot 40°C
Relatieve vochtigheid	\leq 80%RH

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

* Wyłączenie odpowiedzialności

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego wyłączenie odpowiedzialności. Korzystanie z tego produktu oznacza, że użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego wyłączenie odpowiedzialności. Korzystając z tego produktu, użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje zachowanie podczas korzystania z tego produktu i wszelkie wynikające z tego konsekwencje. Użytkownik zgadza się korzystać z tego produktu wyłącznie w odpowiednich i zgodnych z prawem celach. Użytkownik rozumie i zgadza się, że firma Arashi Vision Inc. (zwana dalej "Insta360") nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek niewłaściwe użycie, konsekwencje, szkody, obrażenia, kary lub jakąkolwiek inną odpowiedzialność prawną bezpośrednio lub pośrednio poniesioną przez użytkownika w związku z korzystaniem z tego produktu i powiązanych akcesoriów. Przed każdym użyciem należy upewnić się, że akcesoria działają prawidłowo. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości należy natychmiast zaprzestać ich używania. W zakresie przepisów i regulacji państwowych, Insta360 zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyjaśnienia i zmiany zobowiązania.

Ostrzeżenia

- ① Ta kamera zawiera magnesy. Upewnij się, że trzymasz ją z dala od rozruszników serca i innych urządzeń, aby uniknąć zakłóceń.
- ② Przed użyciem aparatu, upewnij się, że: bateria jest poprawnie założona, pokrywa baterii i pokrywa USB są odpowiednio zamknięte. Aparat nie jest wodoszczelny bez tych środków. Ponadto, upewnij się, że aparat jest suchy przed wyjęciem baterii. Jeśli w porcie Type-C i slotcie na kartę TF pod pokrywą USB znajduje się woda, otwórz pokrywę USB, wytrzyj ją i pozwól wyschnąć naturalnie przed użyciem.
- ③ Aparat powinien być używany wyłącznie w temperaturach od -20°C do 40°C.
- ④ Nie należy ładować akumulatora bezpośrednio po użyciu, ponieważ temperatura akumulatora może być zbyt wysoka. Przed ładowaniem zaleca się odczekanie, aż akumulatora ostygnie do temperatury pokojowej. Ładowanie akumulatora w środowisku o temperaturze powyżej 40°C lub poniżej 0°C może doprowadzić do rozszerzenia, wycieku, przegrzania lub uszkodzenia akumulatora.
- ⑤ Akumulatora można ładować, gdy jest zainstalowany w kamerze lub za pośrednictwem koncentratora szybkiego ładowania. Należy używać zasilacza zgodnego ze specyfikacją ładowania. Należy pamiętać o odłączeniu kamery lub akumulatora po pełnym naładowaniu.
- ⑥ Jeśli kamera nie była używana przez trzy miesiące lub dłużej, akumulator może być rozładowany. Aby włączyć kamerę, należy ją naładować.
- ⑦ Nie należy pozostawiać kamery w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejnik lub kuchenka. Nie pozostawiać wewnątrz pojazdu w upalne dni.

- ⑧ Nie upuszczać ani nie uderzać kamery i nie umieszczać na niej ciężkich przedmiotów.
- ⑨ Nie należy przechowywać ani transportować baterii kamery razem z metalowymi przedmiotami, takimi jak zegarki, klucze i biżuteria.
- ⑩ Jeśli akumulator wpadnie do wody, należy umieścić go w bezpiecznym, otwartym miejscu i trzymać z dala od akumulatora, dopóki całkowicie nie wyschnie. Nie używaj akumulatora ponownie.
- ⑪ Nie używaj baterii, które są zdeformowane lub wykazują jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia. Akumulator nie mogą być wyrzucane razem z odpadami domowymi. Należy je umieszczać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących recyklingu baterii i prawidłowo utylizować akumulatora zawarte w tym produkcie.

Uwaga

- ① Upuszczenie kamery może spowodować uszkodzenie jej wewnętrznych podzespołów i prowadzić do nieprawidłowego działania.
- ② Kamerę należy trzymać z dala od piasku i kurzu.
- ③ Nie używać w ekstremalnych warunkach pogodowych, takich jak silne burze.
- ④ Nie pozostawiać aparatu ani akumulatora w bardzo gorącym lub zimnym otoczeniu. Niskie lub wysokie temperatury mogą tymczasowo skrócić żywotność akumulatora lub spowodować, że kamera przestanie działać.
- ⑤ Należy unikać gwałtownych zmian temperatury lub wilgotności, ponieważ na kamerze lub w jej wnętrzu może skraplać się para wodna.

- ⑥ W przypadku korzystania z uchwyty samoprzylepnej kamerę należy mocować wyłącznie do suchych, czystych i płaskich powierzchni. Elastyczny uchwyt samoprzylepny można podłączyć do standardowego uchwyty w celu zainstalowania kamery. Podczas pracy w środowiskach o dużej prędkości lub intensywności, elastyczny uchwyt samoprzylepny nie powinien być używany z przedłużaczem, w przeciwnym razie kamera i akcesoria mogą spaść.
- ⑦ Podczas korzystania z montażu standardowego w intensywnych scenariuszach akcji, upewnij się, że kamera jest pewnie zamocowana i unikaj gwałtownych uderzeń, aby zapobiec jej upadkowi lub uszkodzeniu.
- ⑧ Do czyszczenia aparatu używaj tylko miękkiej, suchej ściereczki. Nie stosuj żadnych płynnych środków czyszczących.
- ⑨ Przechowuj aparat w suchym środowisku.
- ⑩ Jeśli aparat nie będzie używany przez dłuższy czas, zaleca się wyjęcie z niego akumulatora i przechowywanie go oddzielnie.
- ⑪ Zabrania się używania baterii, które nie zostały oficjalnie dostarczone przez Insta360. Jeśli zajdzie potrzeba wymiany akumulatora, należy dokonać zakupu na oficjalnej stronie Insta360 lub w zalecanych przez nas sklepach. Insta360 nie ponosi odpowiedzialności za wypadki związane z akumulatora lub awarie produktu spowodowane użyciem baterii, które nie zostały oficjalnie dostarczone przez Insta360.

Specyfikacja

Nazwa	Insta360 Ace Pro
Model	CINSAAJA
Wejście	5-9V = 3A Max
Bluetooth	Częstotliwość pracy: 2402~2480MHz Moc nadajnika (E.I.R.P.): < 10dBm
Wi-Fi	2.4GHz WIFI: 2400~2483MHz Częstotliwość pracy: 5.1GHz WIFI: 5150~5250MHz; 5.8GHz WIFI: 5725~5850MHz
	2.4GHz WIFI: < 13dBm; Antena (E.I.R.P.): 5.1GHz WIFI: < 13dBm; 5.8GHz WIFI: < 13dBm.
Akumulator	Pojemność: 1650 mAh Energia: 6.35 Wh
Temperatura pracy	-20°C do 40°C
Temperatura ładowania	0°C do 40°C
Wilgotność podczas pracy	≤80%RH

Informação de Segurança

* Isenção de responsabilidade

Por favor, leia este aviso de isenção de responsabilidade cuidadosamente. Usar este produto significa que você reconhece e aceita os termos deste aviso. Ao usar este produto, você reconhece e concorda que é o único responsável por sua própria conduta ao usar este produto e suas consequências. Você concorda em usar este produto apenas para fins legais e adequados. Você entende e concorda que a Arashi Vision Inc. (doravante denominada 'Insta360') não se responsabiliza por todo e qualquer uso indevido, consequências, danos, lesões, penalidades ou qualquer outra responsabilidade legal incorrida direta ou indiretamente pelo uso deste produto e acessórios associados. Antes de cada uso, certifique-se de que seus acessórios estejam funcionando corretamente. Se houver algum dano ou irregularidade, pare de usá-los imediatamente. No âmbito das leis e regulamentos estaduais, Insta360 reserva-se o direito de explicação final e revisão do compromisso.

Avisos

- ① Esta câmera contém ímãs. Certifique-se de mantê-lo longe de marca-passos e outros dispositivos para evitar interferências.

- ② Antes de usar a câmera, certifique-se de que: a bateria esteja instalada corretamente, a tampa da bateria e a tampa USB estejam devidamente fechadas. A câmera não é à prova d'água sem essas medidas. Além disso, certifique-se de que a câmera esteja seca antes de remover a bateria. Se houver água na porta Tipe-C e no slot do cartão TF sob a tampa USB, abra a tampa USB, limpe-a e deixe secar naturalmente antes de usar.
- ③ A câmera só deve ser usada em temperaturas de -4°F a 104°F (-20°C a 40°C).
- ④ Não carregue a bateria imediatamente após o uso, pois a temperatura da bateria pode estar muito alta. É aconselhável esperar até que a bateria esfrie em temperatura ambiente antes de carregá-la. Carregar a bateria em ambientes acima de 104°F (40°C) ou abaixo de 32°F (0°C) pode causar expansão, vazamento, superaquecimento ou danos à bateria.
- ⑤ A bateria pode ser carregada instalada na câmera ou por meio do Hub de carregamento rápido. Use um adaptador de energia que esteja em conformidade com as especificações de carregamento. Lembre-se de desconectar a câmera ou a bateria depois de totalmente carregada.
- ⑥ Se a câmera não for usada por três meses ou mais, a bateria pode estar descarregada. Carregue a câmera para ligá-la.
- ⑦ Não deixe a câmera perto de fontes de calor, como aquecedores ou fogões. Não deixe dentro de um veículo em dias quentes.
- ⑧ Não deixe cair ou bata na câmera e não coloque objetos pesados sobre ela.
- ⑨ Não armazene ou transporte as baterias da câmera junto com objetos de metal, como relógios, chaves e joias.

- ⑩ Se a bateria cair na água, coloque-a em uma área aberta e segura e mantenha-a afastada da bateria até que esteja completamente seca. Não use a bateria novamente.
- ⑪ Não use baterias deformadas ou com sinais de danos. As pilhas não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Eles devem ser colocados em uma lixeira designada. Cumpra os regulamentos locais sobre reciclagem de baterias e descarte as baterias contidas neste produto corretamente.

Notas

- ① Deixar a câmera cair pode danificar seus componentes internos e fazer com que ela funcione de forma anormal.
- ② Mantenha a câmera longe de areia e poeira.
- ③ Não use em condições climáticas extremas, como fortes tempestades.
- ④ Não deixe a câmera ou a bateria em um ambiente extremamente quente ou frio. Temperaturas frias ou altas podem encurtar temporariamente a vida útil da bateria ou fazer com que a câmera pare de funcionar.
- ⑤ Evite mudanças drásticas de temperatura ou umidade, pois a condensação pode se formar na câmera ou dentro dela.
- ⑥ Ao usar o suporte adesivo, prenda a câmera apenas em superfícies secas, limpas e planas. O suporte adesivo flexível pode ser conectado a um suporte padrão para instalar uma câmera. Ao se envolver em ambientes de alta velocidade ou alta intensidade, o suporte adesivo flexível não deve ser usado com um poste de extensão, caso contrário, sua câmera

e acessórios podem cair.

- ⑦ Ao usar a montagem padrão em cenários de ação de alta intensidade, certifique-se de que a câmera esteja segura e evite impactos violentos para evitar que ela caia ou seja danificada.
- ⑧ Para limpar a câmera, use apenas um pano macio e seco. Não use produtos de limpeza líquidos.
- ⑨ Guarde a câmera em um ambiente seco.
- ⑩ Se você não planeja usar a câmera por um longo período de tempo, é recomendável remover a bateria da câmera e armazená-la separadamente.
- ⑪ É proibido usar baterias que não sejam fornecidas oficialmente pela Insta360. Se precisar substituir a bateria, compre no site oficial do Insta360 ou em nossos canais recomendados. A Insta360 não se responsabiliza por acidentes com baterias ou falhas de produtos causados pelo uso de baterias não fornecidas oficialmente pela Insta360.

Especificações

Nome	Insta360 Ace Pro
Modelo	CINSAAJA
Entrada	5-9V \equiv 3A Máx
Bluetooth	Frequência de operação: 2402~2480MHz Potência do transmissor (E.I.R.P.): < 10dBm
Wi-Fi	Wi-Fi de 2,4 GHz: 2400 ~ 2483 MHz Frequência de operação: Wi-Fi de 5,1 GHz: 5150 ~ 5250 MHz Wi-Fi de 5,8 GHz: 5725 ~ 5850 MHz 2.4GHz WIFI: < 13dBm; Antena (E.I.R.P): 5.1GHz WIFI: < 13dBm; 5.8GHz WIFI: < 13dBm.
Bateria:	Capacidade: 1650 mAh Energia: 6.35 Wh
Temperatura operacional	-20°C to 40°C
Temperatura de carregamento	0°C to 40°C
Umidade operacional	≤80% UR

Информация по технике безопасности

* Отказ от ответственности

Пожалуйста, внимательно прочитайте этот Отказ от ответственности. Использование этого продукта означает, что вы признаете и принимаете условия данного отказа от ответственности. Используя этот продукт, вы тем самым подтверждаете и соглашаетесь с тем, что несете единоличную ответственность за свое поведение при использовании этого продукта и любые его последствия. Вы соглашаетесь использовать этот продукт только в надлежащих и законных целях. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что Arashi Vision Inc. (далее именуемая «Insta360») не несет никакой ответственности за любое неправильное использование, последствия, ущерб, травмы, штрафы или любую другую юридическую ответственность, прямо или косвенно понесенную вами в результате использования вами этого продукта и сопутствующих аксессуаров.

Перед каждым использованием убедитесь, что ваши аксессуары работают должным образом. Если есть какие-либо повреждения или нарушения, немедленно прекратите их использование. В рамках государственных законов и правил Insta360 оставляет за собой право окончательного объяснения и пересмотра обязательства.

Предупреждения

- ① Эта камера содержит магниты. Держите её подальше от кардиостимуляторов и других устройств, чтобы избежать помех.
- ② Перед использованием камеры убедитесь, что: батарея установлена правильно, Крышка Батарейного Отсека и Крышка USB-порта закрыты правильно. Без этого камера не будет водонепроницаемой. Кроме того, перед извлечением аккумулятора убедитесь, что камера сухая. Если под Крышкой USB-порта, а именно в порте Type-C и слоте для карт TF есть вода, откройте Крышку USB- порта, протрите ее и дайте высохнуть естественным путем перед следующим использованием.
- ③ Камеру следует использовать только при температуре от -20°C до 40°C .
- ④ Не заряжайте батарею сразу после использования, так как температура батареи может быть слишком высокой. Перед зарядкой рекомендуется подождать, пока аккумулятор остынет до комнатной температуры. Зарядка аккумулятора при температуре выше 40°C или ниже 0°C может привести к расширению аккумулятора, протечке, перегреву или повреждению аккумулятора.
- ⑤ Аккумулятор можно заряжать, когда он установлен в камере, или через Концентратор Быстрой Зарядки. Используйте адаптер питания, соответствующий характеристикам зарядки. Не забудьте отключить камеру или аккумулятор после полной зарядки.
- ⑥ Если камера не использовалась в течение трех месяцев или дольше, батарея может разрядиться. Пожалуйста, зарядите камеру, чтобы включить ее.
- ⑦ Не оставляйте камеру рядом с источниками тепла, такими как обогреватель или

плита. Не оставляйте внутри автомобиля в жаркие дни.

- ⑧ Старайтесь не ронять и не ударять камеру, а также не ставьте на нее тяжелые предметы.
- ⑨ Не храните и не перевозите аккумуляторы фотокамеры вместе с металлическими предметами, такими как часы, ключи и украшения.
- ⑩ Если батарея упала в воду, поместите ее в безопасное открытое место и держите подальше от батареи, пока она полностью не высохнет. Не используйте батарею снова.
- ⑪ Не используйте батареи, которые деформированы или имеют какие-либо признаки повреждения. Батарейки нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Они должны быть помещены в специальный мусорный бак. Пожалуйста, соблюдайте местные правила утилизации аккумуляторов и правильно утилизируйте аккумуляторы, содержащиеся в этом изделии.

Примечания

- ① Падение камеры может привести к повреждению ее компонентов и нарушению работы.
- ② Держите камеру подальше от песка и пыли.
- ③ Не используйте в экстремальных погодных условиях, таких как сильный шторм.
- ④ Не оставляйте камеру или аккумулятор в очень жарких или холодных температурных условиях. Холод или высокая температура могут временно сократить срок службы батареи или привести к тому, что камера перестанет работать.
- ⑤ Избегайте резких перепадов температуры или влажности, так как на камере или внутри нее может образоваться конденсат.

- ⑥ При использовании Клейкого Крепления устанавливайте камеру только на сухие, чистые, плоские поверхности. Гибкое Клейкое Крепление можно соединить со Стандартным Креплением для установки камеры. При высокой скорости или занятиях высокой интенсивности не следует использовать Гибкое Клейкое Крепление с удлинителем, иначе камера и аксессуары могут упасть.
- ⑦ При использовании Стандартного Крепления при действиях высокой интенсивности, убедитесь, что камера надежно закреплена. Избегайте сильных ударов, падения или повреждения камеры.
- ⑧ Для чистки камеры используйте только мягкую сухую ткань. Не используйте жидкие чистящие средства.
- ⑨ Храните камеру в сухом месте.
- ⑩ Если вы не планируете использовать камеру в течение длительного времени, рекомендуется вынуть аккумулятор из камеры и хранить его отдельно.
- ⑪ Запрещено использовать аккумуляторы, официально не поставляемые Insta360. Если вам необходимо заменить аккумулятор, приобретите его на официальном веб-сайте Insta360 или у рекомендованных нами продавцов. Insta360 не несет ответственности за неполадки с аккумуляторами или сбой продуктов, вызванные использованием аккумуляторов, официально не поставляемых Insta360.

Технические характеристики

Название	Insta360 Ace Pro
Модель	CINSAAJA
Входное напряжение	5-9V \equiv 3A Макс.
Bluetooth	Рабочая частота: 2402~2480MHz Мощность передатчика (E.I.R.P.): < 10dBm
Wi-Fi	2.4GHz WIFI: 2400~2483MHz Рабочая частота: 5.1GHz WIFI: 5150~5250MHz 5.8GHz WIFI: 5725~5850MHz 2.4GHz WIFI: < 13dBm; Антенна (E.I.R.P.): 5.1GHz WIFI: < 13dBm; 5.8GHz WIFI: < 13dBm.
Аккумулятор	Емкость: 1650 мАч Энергия: 6,35 Втч
Рабочая Температура	-20°C до 40°C
Температура зарядки	0°C до 40°C
Рабочая влажность	≤80%RH

安全上の注意事項

* 免責事項

本免責事項をよくお読みください。本製品を使用することにより、お客様は本免責事項の条項を承諾したことになります。本製品を使用することにより、製品使用時のお客様の行為およびその結果について、お客様が単独で責任を負うことを認め、同意したことになります。お客様はこの製品を適切かつ合法的な目的にのみ使用することに同意するものとします。本製品および関連アクセサリーの使用により直接的または間接的に生じた、あらゆる誤用、影響、損害、傷害、罰則、またはその他の法的責任について、お客様は Arashi Vision Inc. (以下「Insta360」とします) が一切の責任を負わないことを理解し、同意するものとします。使用する前に必ず、アクセサリーが正しく機能することを確認してください。損傷や異常がある場合は直ちに使用を中止してください。国の法律および規制の範囲内で、Insta360 は本免責事項の最終的な説明及び改訂の権利を留保します。

警告

- ① このカメラには磁石が内蔵されています。ペースメーカーなどの機器の動作に影響を与えないようにするため、これらの機器に近づけないようにします
- ② カメラを使用する前に、バッテリーが正しく装着されていることと、バッテリーカバーと

USB カバーが正しく閉じていることを確認します。これらの処置がされていなければ、カメラは防水ではありません。さらに、バッテリーを外す前にカメラが乾いていることを確認します。USB カバーの下の Type-C 端子や TF カードスロットに水が付着している場合は、USB カバーを開けて水気を拭き取り、自然乾燥させてから使用します。

- ③ カメラは環境温度が -20°C ~ 40°C の範囲内で使用してください。
- ④ 使用直後はバッテリーが高温になっている場合があるので充電しないでください。充電はバッテリーの温度が室温まで下がってから行ってください。 40°C 以上または 0°C 以下の環境で充電すると、バッテリーが膨張、液漏れ、加熱、損傷する場合があります。
- ⑤ バッテリーはカメラに入れた状態で、または高速充電ハブを介して充電することができます。AC アダプターは充電仕様に合うものを使用してください。完全に充電した後はカメラまたはバッテリーから充電ケーブルを忘れずに取り外してください。
- ⑥ カメラを3か月以上使用しなかった場合、バッテリーが完全に放電した状態になる可能性があります。カメラを充電してから起動してください。
- ⑦ カメラをヒーターや調理器具などの熱源のそばに放置しないでください。暑い日はカメラを車内に放置しないでください。
- ⑧ カメラを落下またはぶつけたりしないでください。またカメラの上に重いものを載せないでください。
- ⑨ カメラのバッテリーを、腕時計や鍵、宝飾品などの金属製品と一緒に保管したり輸送したりしないでください。
- ⑩ バッテリーを水中に落とした場合は、安全なひらけた場所にバッテリーを置き、完全に乾くまでバッテリーに近づかないようにしてください。水中に落としたバッテリーは使用

しないでください。

- ① 変形または損傷の兆候のあるバッテリーは使用しないでください。バッテリーは家電リサイクル品と一緒に廃棄することはできません。バッテリーは専用回収箱に入れてください。本製品に含まれるバッテリーのリサイクルおよび廃棄については、お住いの地域の規則に従ってください。

注意

- ① カメラを落下させると内部の部品を損傷する可能性があり、動作に異常をきたす原因となります。
- ② カメラに砂や埃が付かないようにしてください。
- ③ 暴風などの荒れた気象条件では使用しないでください。
- ④ 極端に高温または低温になる環境にカメラやバッテリーを放置しないでください。低温や高温環境はバッテリーの持ち時間を一時的に短くし、カメラが動作しなくなる原因となります。
- ⑤ 温度や湿度が急激に変化するとカメラ表面や内部に結露が発生するので、そのような環境は避けてください。
- ⑥ 粘着性のマウントを使用する際は、乾燥した清潔で平らな面にのみ取り付けてください。粘着性自在マウントに標準マウントを接続してカメラを取り付けることができます。高速移動や激しい動きをする環境で使用する際は、粘着性自在マウントを延長棒に取り付けて使用しないでください。カメラやアクセサリーが落下するおそれがあります。
- ⑦ 激しいアクションを伴うシナリオで標準マウントを使用する場合は、落下や損傷を防ぐた

- め、カメラがしっかりと固定されていることを確認し、激しい衝突は避けてください。
- ⑧ カメラをお手入れする際は、柔らかい乾いた布のみを使用します。液体洗剤は使用しないでください。
 - ⑨ カメラは乾燥した場所で保管します。
 - ⑩ カメラを長期間使用しない場合は、カメラからバッテリーを取り外して別々に保管することをお勧めします。
 - ⑪ Insta360 純正バッテリー以外を使用することは禁じます。バッテリーを新たに購入する際は、Insta360 公式ウェブサイトまたは弊社推奨の販売チャンネルで購入してください。純正以外のバッテリーを使用したことに起因するバッテリーの事故または製品の故障に対して、Insta360 は責任を負いません。

仕様

名称	Insta360 Ace Pro
モデル	CINSAAJA
入力	5-9V ≡最大 3A
Bluetooth	動作周波数 2402~2480MHz 送信電力 (E.I.R.P.): < 10dBm
Wi-Fi	2.4GHz WIFI: 2400~2483MHz 動作周波数 5.1GHz WIFI: 5150~5250MHz 5.8GHz WIFI: 5725~5850MHz
	2.4GHz WIFI: < 13dBm アンテナ (E.I.R.P.): 5.1GHz WIFI: < 13dBm 5.8GHz WIFI: < 13dBm
バッテリー	容量 1650 mAh エネルギー: 6.35 Wh
動作温度	-20°C~ 40°C
充電温度	0°C~ 40°C
動作湿度	相対湿度 80% 以下

한국어

안전 정보

* 면책조항

하단 면책 조항을 유의하여 확인하십시오. 해당 제품을 사용한다는 것은 귀하가 면책 조항을 인정하고 수락함을 의미합니다. 귀하는 해당 제품을 사용함으로써 제품 사용 시 자신의 행동과 그에 따른 결과에 대해 전적으로 책임이 있음을 인정하고 이에 동의합니다. 귀하는 해당 제품을 적절하고 합법적인 목적으로만 사용하는 데 동의합니다. 귀하가 해당 제품을 사용하여 직간접적으로 발생한 모든 오용, 결과, 파손, 부상, 처벌 또는 기타 법적 책임에 대해 Arashi Vision Inc. (이하 'Insta360' 이라고 칭함) 는 책임을 지지 않는다는 점을 이해하고 동의합니다. 귀하가 해당 제품을 사용하여 직간접적으로 발생한 모든 오용, 결과, 파손, 부상, 처벌 또는 기타 법적 책임에 대해 Arashi Vision Inc. (이하 'Insta360' 이라고 칭함) 는 책임을 지지 않는다는 점을 이해하고 동의합니다. 제품 이슈가 발견될 경우 즉시 사용을 중단하십시오. 주 법률 및 규정의 범위 내에서 Insta360 은 책임에 대한 최종 설명 및 수정 권한을 보유합니다.

경고사항

- ① 해당 카메라에는 자석이 포함되어 있습니다. 간섭을 피하기 위해 심장 박동기 및 기타 장치에서 멀리 떨어진 곳에 보관하십시오.
- ② 카메라를 사용하기 전 배터리가 올바르게 설치되었는지, 배터리 커버와 USB 커버가 제대로 닫혔

는지 확인하십시오. 그렇지 않을 시 카메라는 방수를 지원하지 않습니다. 또한 배터리를 분리하기 전, 카메라가 건조한지 확인하십시오. Type-C 포트와 USB 커버 아래 TF 카드 슬롯에 물이 있는 경우, USB 커버를 열어 닦은 후 자연 건조시켜서 사용하십시오.

- ③ 해당 카메라는 -20° C ~ 40° C 온도에서만 사용하십시오.
- ④ 사용 후 바로 배터리를 충전하지 마십시오. 바로 충전 시 배터리가 과열될 수 있습니다. 온도가 실온까지 낮춰질 때까지 기다린 후 충전하시는 것을 권장드립니다. 40°C 이상이나 0°C 이하의 환경에서 배터리를 충전하면 배터리 팽창, 누출, 과열 또는 파손이 발생할 수 있습니다.
- ⑤ 배터리는 카메라에 장착한 상태에서 충전하거나 고속 충전 허브를 통해 충전할 수 있습니다. 충전 사양에 맞는 전원 어댑터를 사용하세요. 완전히 충전된 후에는 카메라 또는 배터리를 분리해야 합니다.
- ⑥ 카메라를 3 개월 이상 사용하지 않으면 배터리가 방전될 수 있습니다. 카메라를 장기간 방치 후 사용하려면 먼저 충전을 해주세요.
- ⑦ 히터나 취사 도구 등의 열원 가까이에 두지 마십시오. 무더운 날에는 차량 내부에 방치하지 마십시오.
- ⑧ 카메라를 떨어뜨리거나 카메라에 충격을 가하지 말고 무거운 물건을 올려놓지 마세요.
- ⑨ 카메라 배터리를 시계, 열쇠, 장신구와 같은 금속 물체와 함께 보관하거나 휴대하지 마세요.
- ⑩ 만약 배터리가 물에 빠진다면, 안전하고 환기가 잘 되는 공간에 놓고 완전히 말려질 때까지 배터리에서 멀리 떨어뜨려 두세요. 배터리를 다시 사용하지 마세요.
- ⑪ 변형되었거나 손상된 흔적이 있는 배터리는 사용하지 마세요. 배터리는 일반 쓰레기와 함께 버릴 수 없습니다. 반드시 지정된 재활용 쓰레기통에 버려야 합니다. 배터리 재활용에 관한 현지 규정을 준수하고 본 제품에 포함된 배터리를 올바르게 폐기하시기 바랍니다.

주의사항

- ① 해당 카메라에는 자석이 포함되어 있습니다. 간섭을 피하기 위해 심장 박동기 및 기타 장치에서 멀리 떨어진 곳에 보관하십시오.
- ② Ace Pro 를 모래와 먼지로부터 멀리하십시오
- ③ 폭풍우와 같은 혹독한 기상 조건에서는 사용하지 마세요.
- ④ 카메라나 배터리를 너무 덥거나 추운 환경에 두지 마세요. 너무 춥거나 높은 온도는 일시적으로 배터리 수명을 단축하거나 카메라 작동을 멈추게 할 수 있습니다.
- ⑤ 제품 표면 또는 내부에 응결이 발생할 수 있으므로 온도나 습도의 급격한 변화를 피하십시오.
- ⑥ 접착식 마운트를 사용할 때는 건조하고 깨끗하며 평평한 표면에만 카메라를 부착하세요. 플렉시블 접착식 마운트를 일반 마운트에 연결하여 카메라를 설치할 수 있습니다. 고속 또는 고강도 환경에서 작업할 때는 플렉시블 접착식 마운트를 연장 봉과 함께 사용하지 마십시오. 그렇지 않으면 카메라 및 액세서리가 떨어질 수 있습니다.
- ⑦ 고강도 액션 환경에서 표준 마운트를 사용 시, 카메라가 견고하게 장착되었는지 체크하고 낙하 또는 파손을 방지하기 위하여 격렬한 충격을 피해 주십시오.
- ⑧ 카메라 청결 시에는 부드럽고 마른 천을 사용하십시오. 액체 세척제는 절대 사용하지 마십시오.
- ⑨ 카메라는 건조한 환경에 보관하십시오.
- ⑩ 카메라를 장시간 사용하지 않을 예정이라면 카메라에서 배터리를 분리하여 별도로 보관하는 것이 좋습니다.
- ⑪ Insta360 에서 공식적으로 제공하지 않는 배터리를 사용하는 것을 엄격히 금지합니다. 배터리 교체가 필요 시 Insta360 공식 홈페이지 또는 지정 채널을 통해 구입하시기 바랍니다. Insta360 은 비공식적으로 구입된 배터리 사용으로 인한 사고 및 장비 고장에 대해 책임을 지지 않습니다.

스펙

제품명	Insta360 Ace Pro
제품 모델	CINSAAJA
인풋	5-9V = 3A Max
블루투스	작동 주파수 : 2402~2480MHz 송신기 전력 (E.I.R.P.): < 10dBm
Wi-Fi	2.4GHz WIFI: 2400~2483MHz 작동 주파수 : 5.1GHz WIFI: 5150~5250MHz 5.8GHz WIFI: 5725~5850MHz
	2.4GHz WIFI: < 13dBm 안테나 (E.I.R.P.): 5.1GHz WIFI: < 13dBm 5.8GHz WIFI: < 13dBm
배터리	용량 : 1650 mAh Energy: 6.35 Wh
작동 온도	-20°C ~ 40°C
충전 온도	0°C ~ 40°C
작동 습도	≤ 80%RH

安全資訊

* 免責聲明

請仔細閱讀本免責聲明。使用本產品即表示您承認並接受本免責聲明的條款。使用本產品，即表示您承認並同意，您對自己在使用本產品時的行為及其後果承擔全部責任。您同意僅將本產品用於正當且合法的目的。您理解並同意，Arashi Vision Inc.（以下簡稱“Insta360”）對因您使用本產品及其相關配件而直接或間接產生的任何及所有誤用、後果、損害、傷害、處罰或任何其他法律後果不承擔任何責任。每次使用前，請確保您的配件功能正常。如果有任何損壞或異常情況，請立即停止使用。在國家法律法規允許的範圍內，Insta360 保留對該承諾的最終解釋權和修改權。

警告

- ① 本相機含有磁鐵。確保使其遠離起搏器和其他裝置以避免干擾。
- ② 使用相機前，請確保：電池已正確安裝，電池蓋和 USB 蓋已正確關閉。如果沒有這些措施，相機就不防水。此外，在取出電池之前，請確保相機乾燥。如果 USB 蓋下方的 Type-C 連接埠和 TF 卡槽內有水，請打開 USB 蓋，擦拭並自然乾燥後再使用。
- ③ 相機只能在 -20° C 至 40° C（-4° F 至 104° F）的溫度範圍內使用。
- ④ 使用後請勿立即給電池充電，否則電池溫度可能過高。建議等到電池冷卻至室溫後再充電。

在高於或低於 40° C (104° F) 的環境中為電池充電 0° C (32° F) 可能會導致電池膨脹、洩漏、過熱或電池損壞。

- ⑤ 電池可以在安裝在相機中時充電，也可以透過快速充電器充電。使用符合充電規格的電源適配器。充滿電後請記住斷開相機或電池的連接。
- ⑥ 如果相機三個月或更長時間未使用，電池可能會耗盡。請為相機充電以將其打開。
- ⑦ 請勿將相機放置在加熱器或炊具等熱源附近。炎熱天氣請勿留在車內。
- ⑧ 請勿掉落或撞擊相機，也不要在其上放置重物。
- ⑨ 請勿將相機電池與手錶、鑰匙和珠寶等金屬物品一起存放或運輸。
- ⑩ 如果電池落入水中，請將其放置在安全的開放區域並遠離電池，直至其完全乾燥。請勿再次使用電池。
- ⑪ 請勿使用變形或有任何損壞跡象的電池。電池不能與日常垃圾一起處理。它們必須放入指定的回收箱中。請遵守當地有關電池回收的規定並正確處理本產品中包含的電池。

注意

- ① 相機跌落可能會損壞其內部組件並導致其工作異常。
- ② 使相機遠離沙子和灰塵。
- ③ 請勿在暴風雨等極端天氣條件下使用。
- ④ 請勿將相機或電池置於極熱或極冷的環境中。寒冷或高溫可能會暫時縮短電池壽命或導致相機停止工作。
- ⑤ 避免溫度或濕度發生劇烈變化，因為相機表面或內部可能會形成凝結。
- ⑥ 使用黏性安裝座時，請將相機僅固定在乾燥、清潔、平坦的表面上。靈活的黏性安裝座可

以連接到標準安裝座以安裝相機。在高速或高強度環境中時，柔性黏貼支架不應與延長桿一起使用，否則您的相機和配件可能會掉落。

- ⑦ 在高強度動作場景下使用標準支架時，請確保相機固定並避免劇烈撞擊，以免相機掉落或損壞。
- ⑧ 要清潔相機，請僅使用柔軟的乾布。請勿使用任何液體清潔產品。
- ⑨ 將相機存放在乾燥的環境中。
- ⑩ 如果您打算長期不使用相機，建議從相機中取出電池並單獨存放。
- ⑪ 禁止使用非 Insta360 官方提供的電池。如需更換電池，請從 Insta360 官方網站或我們推薦的渠道購買。對於因使用非 Insta360 官方供應的電池而導致的電池事故或產品故障，Insta360 不承擔任何責任。

產品規格

產品名稱	Insta360 Ace Pro
型號	CINSAAJA
輸入	5-9V = 3A Max
藍牙	操作頻率: 2402~2480MHz 發射機功率 (E.I.R.P.): < 10dBm
Wi-Fi	操作頻率: 2.4GHz WiFi: 2400~2483MHz 5.1GHz WiFi: 5150~5250MHz 5.8GHz WiFi: 5725~5850MHz 天線 (E.I.R.P.): 2.4GHz WiFi: < 13dBm 5.1GHz WiFi: < 13dBm 5.8GHz WiFi: < 13dBm
電池	容量: 1650 mAh 電量: 6.35 Wh
工作溫度	-20°C to 40°C
充電溫度	0°C to 40°C
工作濕度	≤80%RH

معلومات السلامة

* إخلاء مسؤولية

الرجاء قراءة إخلاء السُّؤلية هذا بعناية. يعني استخدام هذا المنتج أنك تقر وتقبل شروط إخلاء السُّؤلية هذا. باستخدام هذا المنتج ، فإنك تقر وتوافق بموجبه على أنك المسؤول الوحيد عن سلوكك عند استخدام هذا المنتج وأي عواقب مترتبة عليه. أنت توافق على استخدام هذا المنتج فقط للأغراض السليمة والقانونية. أنت تدرك وتوافق على أن شركة أراشي فيجن إنك. (المشار إليها فيما يلي باسم " Insta360 ") لا تتحمل أي مسؤولية عن أي وجميع حالات إساءة الاستخدام أو العواقب أو الأضرار أو الإصابات أو العقوبات أو أي مسؤولية قانونية أخرى تتكبدها بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال استخدامك لهذا المنتج و الملحقات المرتبطة. قبل كل استخدام ، تأكد من أن الملحقات الخاصة بك تعمل بشكل صحيح. إذا كان هناك أي ضرر أو عدم انتظام ، فتوقف عن استخدامها على الفور. في نطاق قوانين ولوائح الولاية ، تحتفظ Insta360 بالحق في التفسير النهائي والمراجعة للالتزام.

تحذيرات

① هذه الكاميرا تحتوي على مغناطيسات. تأكد من الابتعاد عن الأجهزة المثبتة في القلب وغيرها من الأجهزة لتجنب التداخل.

② قبل استخدام الكاميرا، تأكد من أن: تم تركيب البطارية بشكل صحيح، وأن غطاء البطارية وغطاء منفذ الـ USB مغلقان بشكل جيد. الكاميرا ليست مقاومة للماء بدون هذه الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من أن الكاميرا جافة قبل إزالة البطارية. إذا كان هناك ماء في منفذ الـ Type-C وفتحة بطاقة TF تحت غطاء الـ USB، قم بفتح غطاء منفذ الـ USB، ومسحه وتركه ليجف بشكل طبيعي قبل الاستخدام.

③ لا ينبغي استخدام الكاميرا إلا في درجات حرارة تتراوح من -4 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت (20- درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية).

④ لا تقم بشحن البطارية مباشرة بعد الاستخدام ، فقد تكون درجة حرارة البطارية مرتفعة للغاية. يُنصح بالانتظار حتى تبرد البطارية حتى تصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل الشحن. قد يؤدي شحن البطارية في بيئات أعلى من 104 درجة فهرنهايت (40 درجة مئوية) أو أقل من 32 درجة فهرنهايت (0 درجة مئوية) إلى تمدد البطارية ، أو التسرب ، أو السخونة الزائدة ، أو تلف البطارية.

⑤ يمكن شحن البطارية أثناء تثبيتها في الكاميرا أو عبر مركز الشحن السريع. استخدم مهائئ طاقة يتوافق مع مواصفات الشحن. تذكر أن تقوم بفصل الكاميرا أو البطارية بعد الشحن الكامل.

⑥ إذا لم يتم استخدام الكاميرا لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر ، فقد تنفذ البطارية. من فضلك اشحن الكاميرا لتشغيلها

⑦ لا تترك الكاميرا بالقرب من مصادر الحرارة مثل السخان أو الموقد. لا تترك السيارة داخلها في الأيام الحارة.

⑧ لا تسقط أو تضرب الكاميرا ولا تضع أشياء ثقيلة عليها.

⑨ لا تخزن بطاريات الكاميرات أو تنقلها مع أشياء معدنية مثل الساعات والمفاتيح والمجوهرات.

⑩ إذا سقطت البطارية في الماء ، فضعها في مكان آمن ومفتوح وابتعد عن البطارية حتى تجف تمامًا. لا تستخدم البطارية مجددًا.

⑪ لا تستخدم البطاريات المشوهة أو التي تظهر عليها علامات التلف. لا يمكن التخلص من البطاريات مع النفايات المنزلية. يجب وضعها في سلة إعادة التدوير المخصصة. الرجاء الالتزام باللوائح المحلية الخاصة بإعادة تدوير البطاريات والتخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج بشكل صحيح.

ملاحظة

① إسقاط الكاميرا قد يتسبب في تلف مكوناتها الداخلية ويؤدي إلى أداء غير طبيعي.

② احفظ الكاميرا بعيدًا عن الرمال والأتربة.

③ لا تستخدم في ظروف الطقس القاسي مثل العواصف الشديدة.

④ لا تترك الكاميرا أو البطارية في مكان شديد الحرارة أو البرودة. قد تؤدي درجات الحرارة المنخفضة أو المرتفعة إلى تقصير عمر البطارية مؤقتًا أو توقف الكاميرا عن العمل.

⑤ تجنب التغييرات الكبيرة في درجات الحرارة أو الرطوبة حيث قد يتكثف التكثيف على الكاميرا أو داخلها.

⑥ عند استخدام أداة التركيب اللاصق ، يرجى توصيل الكاميرا بأسطح جافة ونظيفة ومستوية فقط. يمكن توصيل الحامل اللاصق المرن بجهاز التثبيت القياسي لتركيب الكاميرا. عند الانخراط في بيئات عالية السرعة أو عالية الكثافة ، يجب عدم استخدام الحامل اللاصق المرن مع عمود تمديد ، وإلا فقد تسقط الكاميرا والملحقات الخاصة بك.

⑦ عند استخدام tnuoM dradnatS في سيناريوهات عالية الكثافة، تأكد من أن الكاميرا ثابتة وتجنب الصدمات العنيفة لمنع

سقوطها أو تلفها.

⑧ لتنظيف الكاميرا، استخدم فقط قطعة قماش ناعمة وجافة. لا تستخدم أي منتجات تنظيف سائلة.

⑨ قم بتخزين الكاميرا في بيئة جافة.

⑩ إذا كنت لا تخطط لاستخدام الكاميرا لفترة طويلة ، يوصى بإخراج البطارية من الكاميرا وتخزينها بشكل منفصل.

⑪ يحظر استخدام البطاريات التي لم يتم توفيرها رسميًا من قبل Insta360. إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية ، فالرجاء الشراء من موقع Insta360 الرسمي أو من القنوات الموصى بها. لن يكون إنستا 360 مسؤولاً عن حوادث البطارية أو فشل المنتج الناتج عن استخدام البطاريات غير الموردة رسميًا بواسطة إنستا 360.

مواصفات

	Insta360 Ace Pro	اسم
	CINSAAJA	نموذج
	xaM A3==V9-5	الإدخال
2480MHz~2402 10dBm>	قوة جهاز الإرسال (E.I.R.P): 2402 ~ 2480 ميغا هيرتز	بلوتوث
2.4GHz WIFI: 2400~2483MHz ;5.1GHz WIFI: 5150~5250MHz 5.8GHz WIFI: 5725~5850MHz	قوة جهاز الإرسال (E.I.R.P):	Wi-Fi
2.4GHz WIFI: <13dBm 5.1GHz WIFI: <13dBm 5.8GHz WIFI: <13dBm	الهوائي (E.I.R.P):	
mAh 1650 Wh 6.35	سعة: طاقة:	بطارية
	°C-20 إلى °C40	درجة حرارة التشغيل
	°C0 إلى °C40	شحن درجة الحرارة
	80%RH≥	رطوبة التشغيل

सुरक्षा संबंधी जानकारी

*अस्वीकरण

कृपया इस अस्वीकरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इस उत्पाद का उपयोग करने का मतलब है कि आप इस अस्वीकरण की शर्तों को स्वीकार करते हैं अस्वीकरण करते हैं। इस उत्पाद का उपयोग करके, आप इस बात को स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि इस उत्पाद का उपयोग करते समय अपने आचरण और उसके किसी भी परिणाम के लिए आप पूरी तरह से ज़िम्मेदार हैं। आप इस उत्पाद का उपयोग केवल उचित और वैध प्रयोजनों के लिए करने के लिए सहमत हैं। आप समझते हैं और सहमत हैं कि अर्शी वजिन इंक. (इसके बाद 'Insta360' के रूप में संदर्भित) इस उत्पाद के उपयोग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले किसी भी और सभी दुरुपयोग, परिणाम, क्षति, चोट, दंड, या किसी अन्य कानूनी ज़िम्मेदारी के लिए कोई दायित्व स्वीकार नहीं करता है। संबंधित सहायक उपकरण. प्रत्येक उपयोग से पहले, सुनिश्चित करें कि आपका सामान ठीक से काम कर रहा है। यदि कोई क्षति या अनियमितता हो, तो तुरंत उनका उपयोग बंद कर दें। राज्य कानूनों और वनियमों के दायरे में, Insta360 प्रतबिद्धता के लिए अंतिम स्पष्टीकरण और संशोधन का अधिकार सुरक्षित रखता है।

चेतावनियाँ

- ① इस कैमरे में चुंबक होते हैं। सुनिश्चित करें कि इसे पेसमेकर और अन्य उपकरणों से दूर रखें ताकि अवरोध से बचा जा सके।
- ② कैमरा इस्तेमाल करने से पहले सुनिश्चित करें कि बैटरी सही तरीके से लगी है, बैटरी कवर और USB कवर ठीक से बंद है। इन उपायों के बिना कैमरा जलरोधक नहीं है। इसके अलावा, बैटरी निकालने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा सुखा है। यदि USB कवर के तहत Type-C पोर्ट और TF कार्ड स्लॉट में पानी है, तो USB कवर को खोलें, इसे पोछें और

प्राकृतिक तरीके से सुखाने से पहले इस्तेमाल करें।

- ③ कैमरे का उपयोग केवल -4°F से 104°F (-20°C से 40°C) तापमान में ही किया जाना चाहिए।
- ④ उपयोग के बाद तुरंत बैटरी को चार्ज न करें, क्योंकि बैटरी का तापमान बहुत अधिक हो सकता है। यह सलाह दी जाती है कि चार्ज करने से पहले बैटरी के कमरे के तापमान तक ठंडा होने तक इंतज़ार करें। बैटरी को 104°F (40°C) से ऊपर या 32°F (0°C) से नीचे के वातावरण में चार्ज करने से बैटरी का वसितार, रिसाव, अधिक गर्मी या बैटरी खराब हो सकती है।
- ⑤ बैटरी को कैमरे में स्थापित होने के दौरान या फास्ट चार्ज हब के माध्यम से चार्ज किया जा सकता है। ऐसे पॉवर एडाप्टर का उपयोग करें जो चार्जिंग विनिर्देशों का अनुपालन करता हो। पूरी तरह से चार्ज होने के बाद कैमरा या बैटरी को डिसिक्नेकट करना याद रखें।
- ⑥ अगर कैमरे का उपयोग तीन महीने या उससे अधिक समय से नहीं किया गया है, तो बैटरी खत्म हो सकती है। कृपया इसे चालू करने के लिए कैमरे को चार्ज करें।
- ⑦ कैमरे को हीटर या कुकर जैसे गर्मी स्रोतों के पास न छोड़ें। गर्म दानों में वाहन के अंदर न नकिलें।
- ⑧ कैमरे को न गरिपं या उस पर प्रहार न करें और उस पर भारी वस्तु न रखें।
- ⑨ कैमरा बैटरियों को घड़ियों, चाबियों और आभूषण जैसी धातु की वस्तुओं के साथ संग्रहीत या परिवहन न करें।
- ⑩ यदि बैटरी पानी में गरि जाती है, तो उसे कसिी सुरक्षति खुले क्षेत्त्र में रखें और पूरी तरह सुखने तक बैटरी से दूर रखें। बैटरी का दोबारा प्रयोग न करें।
- ⑪ ऐसी बैटरियों का उपयोग न करें जो वकित हो या जनिमें क्षति के कोई लक्षण दिखाई दें। बैटरियों का नपिटान घरेलू कचरे के साथ नहीं किया जा सकता है। उन्हें एक नरिदषिट पुनर्रचकरण बनि में रखा जाना चाहिए। कृपया बैटरी रीसाइक्लिंग पर स्थानीय नयिमों का पालन करें और इस उत्पाद में मौजूद बैटरियों का सही तरीके से नपिटान करें।

टपिपणी

- ① कैमरा को गरिने से इसके आंतरिक घटको में क्षति हो सकती है और इसे असामान्य ढंग से काम करने का कारण बना सकती है।
- ② कैमरे को रेत और धूल से दूर रखें।
- ③ भारी तूफान जैसी अत्यधिक मौसम की स्थिति में उपयोग न करें।
- ④ कैमरे या बैटरी को अत्यधिक गर्म या ठंडे वातावरण में न छोड़ें। ठंड या उच्च तापमान से बैटरी का जीवन अस्थायी रूप से कम हो सकता है या कैमरा काम करना बंद कर सकता है।
- ⑤ नाटकीय तापमान या आर्द्रता परिवर्तन से बचे क्योंकि संक्षेपण कैमरे पर या उसके भीतर बन सकता है।
- ⑥ चपिकने वाले माउंट का उपयोग करते समय, कृपया कैमरे को केवल सूखी, साफ, सपाट सतहों पर संलग्न करें। कैमरे को स्थापित करने के लिए लचीले चपिकने वाले माउंट को मानक माउंट से जोड़ा जा सकता है। उच्च गति या उच्च तीव्रता वाले वातावरण में संलग्न होने पर, फ्लेक्सबिल एडहेसिव माउंट का उपयोग एक्सटेंशन पोल के साथ नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा, आपका कैमरा और सहायक उपकरण गिर सकते हैं।
- ⑦ उच्च ताकतवर क्रिया परदृश्यों में स्टैंडर्ड माउंट का उपयोग करते समय, सुनिश्चित करें कि कैमरा सुरक्षित है और इसे गरिने या क्षतिग्रस्त होने से बचाएं।
- ⑧ कैमरा साफ करने के लिए केवल मुलायम सूखा कपड़ा इस्तेमाल करें। किसी भी तरह के तराल सफाई उत्पाद का इस्तेमाल न करें।
- ⑨ कैमरा सूखे माहौल में रखें।
- ⑩ यदि आप लंबे समय तक कैमरे का उपयोग करने की योजना नहीं बना रहे हैं, तो यह अनुशंसा की जाती है कि कैमरे से बैटरी को हटा दें और इसे अलग से संग्रहित करें।
- ⑪ उन बैटरियों का उपयोग करना नषिदिध है जो Insta360 द्वारा आधिकारिक तौर पर आपूर्त नहीं की जाती है। यदि आपको बैटरी बदलने की आवश्यकता है, तो कृपया आधिकारिक Insta360 वेबसाइट या हमारे अनुशंसित चैनलों से खरीदारी करें। Insta360 द्वारा आधिकारिक तौर पर आपूर्त नहीं की गई बैटरियों के उपयोग के कारण होने वाली बैटरी दुर्घटनाओं या उत्पाद वफिलताओं के लिए Insta360 जमिमेदार नहीं होगा।

वशिष वविरण

नाम	Insta360 Ace Pro
नमूना	CINSAAJA
इनपुट	5-9V == 3A Max
ब्लूटूथ	संचालन आवृत्तः 2402~2480MHz ट्रान्समीटर पावर (E.I.R.P.): < 10dBm
Wi-Fi	2.4GHz WIFI: 2400~2483MHz संचालन आवृत्तः 5.1GHz WIFI: 5150~5250MHz 5.8GHz WIFI: 5725~5850MHz
	2.4GHz WIFI: < 13dBm; ऐनूटेना (E.I.R.P.): 5.1GHz WIFI: < 13dBm; 5.8GHz WIFI: < 13dBm.
बैटरी	क्षमता: 1650 mAh एनर्जी: 6.35 Wh
परचालन तापमान	-20°C to 40°C
चारुजगि ताप	0°C to 40°C
वर्तमान आर्द्रता	≤80%RH

Indonesian

Informasi keselamatan

* Penafian

Mohon baca Penafian ini dengan seksama. Dengan menggunakan produk ini berarti Anda mengetahui dan menerima persyaratan penafian ini. Dengan menggunakan produk ini, Anda dengan ini mengakui dan menyetujui bahwa Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas perilaku Anda sendiri saat menggunakan produk ini dan konsekuensi apa pun yang ditimbulkannya. Anda setuju untuk menggunakan produk ini hanya untuk tujuan yang benar dan sesuai hukum. Anda memahami dan setuju bahwa Arashi Vision Inc. (selanjutnya disebut sebagai 'Insta360') tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua penyalahgunaan, konsekuensi, kerusakan, cedera, penalti, atau tanggung jawab hukum lainnya yang secara langsung atau tidak langsung ditimbulkan oleh penggunaan produk ini dan aksesori terkait. Sebelum setiap kali digunakan, pastikan aksesori Anda berfungsi dengan baik. Jika ada kerusakan atau penyimpangan, segera hentikan penggunaannya. Dalam lingkup undang-undang dan peraturan negara, Insta360 berhak atas penjelasan akhir dan revisi atas komitmen tersebut.

Peringatan

- ① Kamera ini mengandung magnet. Pastikan untuk menjauhkannya dari pacemaker dan perangkat lainnya untuk menghindari gangguan.

- ② Sebelum menggunakan kamera, pastikan bahwa: baterai dipasang dengan benar, Penutup Baterai dan Penutup USB tertutup dengan baik. Kamera tidak kedap air tanpa tindakan ini. Selain itu, pastikan kamera kering sebelum mengeluarkan baterai. Jika ada air di port Type-C dan slot kartu TF di bawah penutup USB, buka penutup USB, lap dan biarkan mengering secara alami sebelum digunakan.
- ③ Kamera sebaiknya hanya digunakan pada suhu dari -4°F hingga 104°F (-20°C hingga 40°C).
- ④ Jangan mengisi baterai segera setelah digunakan, karena suhu baterai mungkin terlalu tinggi. Disarankan untuk menunggu hingga baterai mendingin hingga mencapai suhu ruangan sebelum mengisi daya. Mengisi daya baterai di lingkungan di atas 104°F (40°C) atau di bawah 32°F (0°C) dapat menyebabkan baterai mengembang, bocor, panas berlebih, atau kerusakan baterai.
- ⑤ Baterai dapat diisi daya saat terpasang di kamera, atau melalui Fast Charge Hub. Gunakan adaptor daya yang mematuhi spesifikasi pengisian daya. Gunakan adaptor daya yang mematuhi spesifikasi pengisian daya. Jangan lupa untuk melepaskan kamera atau baterai setelah terisi penuh.
- ⑥ Jika kamera tidak digunakan selama tiga bulan atau lebih, baterai dapat habis. Harap isi daya kamera untuk menghidupkannya.
- ⑦ Jangan tinggalkan kamera di dekat sumber panas seperti pemanas atau penanak nasi. Jangan meninggalkan bagian dalam kendaraan pada hari yang panas.
- ⑧ Jangan menjatuhkan atau membentur kamera dan jangan meletakkan benda berat di atasnya.

- ⑨ Jangan simpan atau bawa baterai kamera bersama dengan benda logam seperti jam tangan, kunci, dan perhiasan.
- ⑩ Jika baterai jatuh ke dalam air, letakkan di tempat terbuka yang aman dan jauhkan dari baterai hingga baterai benar-benar kering. Jangan gunakan baterai kembali.
- ⑪ Jangan gunakan baterai yang cacat atau menunjukkan tanda-tanda kerusakan apa pun. Baterai tidak dapat dibuang bersama dengan sampah rumah tangga. Mereka harus ditempatkan di tempat sampah daur ulang yang telah ditentukan. Harap patuhi peraturan setempat tentang daur ulang baterai dan buang baterai yang terdapat dalam produk ini dengan benar.

Catatan

- ① Melempar kamera dapat merusak komponen internalnya dan menyebabkannya berfungsi secara abnormal.
- ② Jauhkan kamera dari pasir dan debu.
- ③ Jangan gunakan dalam kondisi cuaca ekstrim seperti badai yang hebat.
- ④ Jangan tinggalkan kamera atau baterai di lingkungan yang terlalu panas atau dingin. Suhu dingin atau tinggi dapat mempersingkat masa pakai baterai untuk sementara atau menyebabkan kamera berhenti berfungsi.
- ⑤ Hindari perubahan suhu atau kelembapan yang dramatis karena pengembunan dapat terbentuk di dalam atau di dalam kamera.
- ⑥ Saat menggunakan Mount Perekat, harap pasang kamera hanya pada permukaan yang

kering, bersih, dan rata. Pemasangan Perekat Fleksibel dapat dihubungkan ke Pemasangan Standar untuk memasang kamera. Saat terlibat dalam lingkungan berkecepatan tinggi atau intensitas tinggi, Dudukan Perekat Fleksibel tidak boleh digunakan dengan tiang ekstensi, jika tidak, kamera dan aksesoris Anda dapat jatuh.

- ⑦ Ketika menggunakan Standard Mount dalam skenario aksi dengan intensitas tinggi, pastikan kamera terpasang dengan aman dan hindari benturan yang keras untuk mencegah jatuh atau rusak.
- ⑧ Untuk membersihkan kamera, gunakan hanya kain kering yang lembut. Jangan gunakan produk pembersih cairan apa pun.
- ⑨ Simpan kamera di lingkungan yang kering.
- ⑩ Jika Anda berencana untuk tidak menggunakan kamera dalam waktu yang lama, disarankan untuk melepas baterai dari kamera dan menyimpannya secara terpisah.
- ⑪ Dilarang menggunakan baterai yang tidak disediakan oleh Insta360 secara resmi. Jika Anda perlu mengganti baterai, harap beli dari situs resmi Insta360 atau saluran yang kami rekomendasikan. Insta360 tidak akan bertanggung jawab atas kecelakaan baterai atau kerusakan produk yang disebabkan oleh penggunaan baterai yang tidak dipasok secara resmi oleh Insta360.

Spesifikasi

Nama	Insta360 Ace Pro
Model	CINSAAJA
Memasukkan	5-9V = 3A Max
Bluetooth	Frekuensi Operasi: 2402~2480MHz Daya Pemancar (E.I.R.P): < 10dBm
Wi-Fi	2.4GHz WIFI: 2400~2483MHz Frekuensi Operasi: 5.1GHz WIFI: 5150~5250MHz 5.8GHz WIFI: 5725~5850MHz
	2.4GHz WIFI: < 13dBm Antena (E.I.R.P): 5.1GHz WIFI: < 13dBm 5.8GHz WIFI: < 13dBm
Baterai	Kapasitas: 1650 mAh Energi: 6.35 Wh
Suhu Operasional	-20°C to 40°C
Pengisian suhu	0°C to 40°C
Kelembaban pengoperasian	≤80%RH

Maklumat keselamatan

* Penafian

Sila baca Penafian ini dengan berhati-hati. Menggunakan produk ini bermakna anda mengakui dan menerima syarat-syarat penafian ini. Dengan menggunakan produk ini, anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya atas kelakuan anda sendiri apabila menggunakan produk ini dan apa-apa akibat daripadanya. Anda bersetuju untuk menggunakan produk ini hanya untuk tujuan yang betul dan sah. Anda memahami dan bersetuju bahawa Arashi Vision Inc. (selepas ini dirujuk sebagai 'Insta360') tidak menerima liabiliti untuk sebarang dan semua penyalahgunaan, akibat, kerosakan, kecederaan, penalti atau sebarang tanggungjawab undang-undang lain yang ditanggung secara langsung atau tidak langsung oleh anda menggunakan produk ini dan aksesori berkaitan Sebelum setiap penggunaan, pastikan aksesori anda berfungsi dengan baik. Jika terdapat sebarang kerosakan atau ketidakteraturan, hentikan penggunaannya dengan serta-merta. Dalam skop undang-undang dan peraturan negeri, Insta360 berhak mendapatkan penjelasan dan semakan akhir untuk komitmen tersebut.

Amaran

① Kamera ini mengandungi magnet. Pastikan untuk menjauhkannya dari pacemaker dan

peranti lain untuk mengelakkan gangguan.

- ② Sebelum menggunakan kamera, pastikan: bateri dipasang dengan betul, penutup Bateri dan penutup USB ditutup dengan betul. Kamera tidak kedap air tanpa langkah-langkah ini. Selain itu, pastikan kamera kering sebelum mengeluarkan bateri. Jika ada air di port Type-C dan slot kad TF di bawah penutup USB, buka penutup USB, lap dan biarkan kering secara semula jadi sebelum digunakan.
- ③ Kamera hendaklah hanya digunakan dalam suhu dari -4°F hingga 104°F (-20°C hingga 40°C).
- ④ Jangan cas bateri sebaik sahaja digunakan, kerana suhu bateri mungkin terlalu tinggi. Adalah dinasihatkan untuk menunggu sehingga bateri menjadi sejuk ke suhu bilik sebelum mengecas. Mengecas bateri dalam persekitaran yang melebihi 104°F (40°C) atau di bawah 32°F (0°C) boleh mengakibatkan pengembangan bateri, kebocoran, terlalu panas atau kerosakan bateri.
- ⑤ Bateri boleh dicas semasa dipasang di dalam kamera, atau melalui Hab Pengecasan Cepat. Gunakan penyesuai kuasa yang memenuhi spesifikasi pengecasan. Jangan lupa untuk memutuskan sambungan kamera atau bateri selepas dicas sepenuhnya.
- ⑥ Jika kamera tidak digunakan selama tiga bulan atau lebih, bateri mungkin kehabisan. Sila cas kamera untuk hidupan.
- ⑦ Jangan tinggalkan kamera berhampiran sumber haba seperti pemanas atau periuk masak. Jangan tinggalkan di dalam kenderaan pada hari yang panas.
- ⑧ Jangan jatuhkan atau hentam kamera dan jangan letakkan objek berat di atasnya.

- ⑨ Jangan simpan atau angkut bateri kamera bersama-sama dengan objek logam seperti jam tangan, kunci dan barang kemas.
- ⑩ Jika bateri jatuh ke dalam air, letakkannya di kawasan terbuka yang selamat dan jauhkan daripada bateri sehingga ia benar-benar kering. Jangan gunakan bateri semula.
- ⑪ Jangan gunakan bateri yang cacat atau menunjukkan sebarang tanda kerosakan. Bateri tidak boleh dibuang bersama-sama dengan sampah rumah. Ia mesti diletakkan dalam tong kitar semula yang ditetapkan. Sila patuhi peraturan tempatan mengenai kitar semula bateri dan buang bateri yang terkandung dalam produk ini dengan betul.

Nota

- ① Jatuhkan kamera boleh merosakkan komponen dalaman dan menyebabkannya berfungsi secara tidak normal.
- ② Jauhkan kamera dari pasir dan debu.
- ③ Jangan gunakan dalam keadaan cuaca ekstrem seperti ribut lebat.
- ④ Jangan tinggalkan kamera atau bateri dalam persekitaran yang amat panas atau sejuk. Suhu yang sejuk atau tinggi mungkin memendekkan hayat bateri buat sementara waktu atau menyebabkan kamera berhenti berfungsi.
- ⑤ Elakkan perubahan suhu atau kelembapan yang dramatik kerana pemeluwapan boleh terbentuk pada atau dalam kamera.
- ⑥ Semasa menggunakan Pelekap Pelekat, sila pasang kamera pada permukaan yang kering, bersih dan rata sahaja. Lepak Pelekat Fleksibel boleh disambungkan kepada Lepak

Standard untuk memasang kamera. Apabila terlibat dalam persekitaran berkelajuan tinggi atau berintensiti tinggi, Lepak Pelekat Fleksibel tidak boleh digunakan dengan tiang sambungan, jika tidak, kamera dan aksesori anda mungkin jatuh.

- ⑦ Apabila menggunakan Standard Mount dalam skenario tindakan yang intens, pastikan kamera dipasang dengan kukuh dan elakkan daripada terkena impak yang kuat untuk mengelakkan ia jatuh atau rosak.
- ⑧ Untuk membersihkan kamera, gunakan hanya kain kering yang lembut. Jangan gunakan produk pembersihan cecair.
- ⑨ Simpan kamera di persekitaran yang kering.
- ⑩ Jika anda tidak bercadang untuk menggunakan kamera untuk masa yang lama, adalah disyorkan untuk mengeluarkan bateri dari kamera dan menyimpannya secara berasingan.
- ⑪ Adalah dilarang untuk menggunakan bateri yang tidak dibekalkan secara rasmi oleh Insta360. Jika anda perlu menggantikan bateri, sila beli dari tapak web rasmi Insta360 atau saluran yang disyorkan kami. Insta360 tidak akan bertanggungjawab terhadap kemalangan bateri atau kegagalan produk yang disebabkan oleh penggunaan bateri yang tidak dibekalkan secara rasmi oleh Insta360.

Spesifikasi

Nama	Insta360 Ace Pro
Model	CINSAAJA
Masukan	5-9V \equiv 3A Max
Bluetooth	Kekerapan Operasi: 2402~2480MHz Kuasa Pemancar (E.I.R.P.): < 10dBm
Wi-Fi	2.4GHz WIFI: 2400~2483MHz Kekerapan Operasi: 5.1GHz WIFI: 5150~5250MHz; 5.8GHz WIFI: 5725~5850MHz
	2.4GHz WIFI: < 13dBm; Antena (E.I.R.P.): 5.1GHz WIFI: < 13dBm; 5.8GHz WIFI: < 13dBm.
Bateri	Kapasiti 1650 mAh Tenaga: 6.35 Wh
Kelembapan operasi	-20°C hingga 40°C
Suhu pengecasan	0°C hingga 40°C
Kelembapan operasi	\leq 80%RH

ภาษาไทย

ขข้อมูลความปลอดภัย

* ข้อสงวนสิทธิ์

โปรดอ่านข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบนี้อย่างละเอียด

การใช้ผลิตภัณฑ์นี้หมายความว่า คุณรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของคำปฏิเสชนี้ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ แสดงว่าคุณรับทราบและตกลงว่าคุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการปฏิบัติของคุณเองเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้และผลที่ตามมา คุณตกลงที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น คุณเข้าใจและตกลงว่า อาราชิ วิชั่น อิงค์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'Insta360') ไม่รับผิดชอบ ใดๆ ต่อการใช้งานในทางที่ผิดผลที่ตามมา ความเสียหาย การบาดเจ็บ บกพร่อง หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ของคุณและ อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง ก่อนใช้งานทุกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เสริมของคุณทำงานได้ตามปกติ หากมีความเสียหายหรือผิดปกติให้หยุดใช้ทันที ภายในขอบเขตของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของรัฐ Insta360 ขอสงวนสิทธิ์ในการอธิบายขั้นสุดท้ายและการแก้ไขสำหรับข้อผูกมัด

คำเตือน

- ① กล้องนี้มีแม่เหล็ก โปรดแน่ใจว่าคุณเก็บอยู่ห่างจากเครื่องช่วยหัวใจและอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อป้องกันการรบกวน
- ② ก่อนใช้กล้อง ให้ตรวจสอบว่า: แบตเตอรี่ถูกติดตั้งอย่างถูกต้อง
ฝาปิดแบตเตอรี่และฝาปิด USB ถูกปิดอย่างถูกต้อง กล้องจะไม่กินน้ำหากไม่มีมาตรการเหล่านี้ นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องแห้งก่อนถอดแบตเตอรี่ หากมีน้ำภายในพอร์ต Type-C และช่องใส่การ์ด TF

ภายใต้ฝาปิด USB เปิดฝาปิด USB แล้วเช็ดและทิ้งไว้ให้แห้งเองก่อนใช้.

- ③ กล้องควรใช้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -4°F ถึง 104°F (-20°C ถึง 40°C) เท่านั้น
- ④ อย่าชาร์จแบตเตอรี่ทันทีหลังจากใช้งาน เนื่องจากอุณหภูมิของแบตเตอรี่อาจสูงเกินไปขอแนะนำให้รอจนกว่าแบตเตอรี่จะเย็นลงจนถึงอุณหภูมิห้องก่อนที่จะทำการชาร์จ การชาร์จแบตเตอรี่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 104°F (40°C) หรือต่ำกว่า 32°F (0°C) อาจทำให้แบตเตอรี่ขยายตัว การรั่วไหล ความร้อนสูงเกินไป หรือแบตเตอรี่เสียหาย
- ⑤ สามารถชาร์จแบตเตอรี่ขณะติดตั้งในกล้องหรือผ่านฮับการชาร์จอย่างรวดเร็ว ใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟที่สอดคล้องกับข้อกำหนดการชาร์จอย่าสัมผัสสายกล้องหรือแบตเตอรี่ออกหลังจากชาร์จเต็มแล้ว
- ⑥ หากไม่ได้ใช้งานกล้องเป็นเวลาสามเดือนขึ้นไป แบตเตอรี่อาจหมด กรุณาชาร์จกล้องเพื่อเปิดใช้
- ⑦ อย่าวางกล้องไว้ใกล้แหล่งความร้อน เช่น ฮีตเตอร์หรือหม้อหุงข้าว อย่าทิ้งไว้ในรถในวันที่อากาศร้อนจัด
- ⑧ ห้ามทำกล้องหล่นหรือกระแทก และห้ามวางของหนักทับ
- ⑨ ห้ามเก็บหรือขนย้ายแบตเตอรี่กล้องร่วมกับวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น นวมฝัก กุญแจ และเครื่องประดับ
- ⑩ หากแบตเตอรี่ตกน้ำ ให้วางใบพื้นที่เปิดโล่งที่ปลอดภัย และเก็บให้ห่างจากแบตเตอรี่จนกว่าจะแห้งสนิท อย่าใช้แบตเตอรี่พรีชาร์จ
- ⑪ อย่าใช้แบตเตอรี่ที่ผิดปกติหรือแสดงอาการเสียหายใดๆ
ไม่สามารถทิ้งแบตเตอรี่ร่วมกับขยะในครัวเรือนได้ ต้องวางไว้ในถังรีไซเคิลที่กำหนดไว้โปรดปฏิบัติตามข้อบังคับท้องถิ่นเกี่ยวกับการรีไซเคิลแบตเตอรี่และกำจัดแบตเตอรี่ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้อง

หมายเหตุ

- ① การหยิบกล้องออกจากมืออาจทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์ประกอบภายในของกล้องและทำให้ทำงานผิดปกติได้
- ② วางกล้องให้ห่างจากรายและฝุ่น
- ③ อย่าใช้โบสกาพอากาศที่รุนแรง เช่น พายุหมึก
- ④ ห้ามทิ้งกล้องหรือแบตเตอรี่ไว้ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนหรือเย็นจัด
อุณหภูมิที่เย็นจัดหรือสูงอาจทำให้อายุแบตเตอรี่สั้นลงชั่วคราวหรือทำให้กล้องหยุดทำงาน
- ⑤ หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือความชื้นอย่างมาก เนื่องจากอาจเกิดการควบแน่นในหรือภายในกล้อง
- ⑥ เมื่อใช้การติดด้วยกาว โปรดติดตั้งกล้องบนพื้นผิวที่แห้ง สะอาด และเรียบเท่านั้น ตัวยึดแบบกาวยึดหยุ่นสามารถเชื่อมต่อกับตัวยึดมาตรฐานเพื่อติดตั้งกล้อง
เมื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความเร็วสูงหรือความชื้นสูง ไม่ควรใช้ตัวยึดแบบยึดหยุ่นด้วยแถบกาวกับเสาต่อ
มีฉะนั้น กล้องและอุปกรณ์เสริมของคุณอาจร่วงหล่นได้
- ⑦ เมื่อใช้ Standard Mount ในสถานการณ์ที่มีการกระแทกที่มีความเข้มข้นสูง
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องถูกติดตั้งอย่างมั่นคงและหลีกเลี่ยงการกระแทกแรงเพื่อป้องกันการหลุด
หรือเกิดความเสียหายให้กับกล้อง
- ⑧ เมื่อทำความสะอาดกล้อง ใช้เฉพาะผ้าแห้งนุ่ม ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสารละลาย.
- ⑨ เก็บกล้องในสภาพแวดล้อมที่แห้ง.
- ⑩ หากคุณไม่ได้วางแผนที่จะใช้กล้องเป็นเวลานาน ขอแนะนำให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากกล้องและเก็บแยกไว้ต่างหาก
- ⑪ ห้ามใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ได้มาจาก Insta360 อย่างเป็นทางการ หากคุณต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่
โปรดซื้อจากเว็บไซต์ทางการของ Insta360 หรือช่องทางที่แนะนำของเรา Insta360
จะไม่รับผิดชอบต่อบุติเหตุเกี่ยวกับแบตเตอรี่หรือความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้แบตเตอรี่
ที่ไม่ได้จัดหาให้อย่างเป็นทางการจาก Insta360

ข้อมูลจำเพาะ

ตั้งชื่อ	Insta360 Ace Pro
แบบอย่าง	CINSAAJA
ป้อนข้อมูล	5-9V == 3A Max
บลูทูธ	ความถี่ในการดำเนินงาน: 2402~2480MHz กำลังเครื่องส่ง (E.I.R.P.): < 10dBm
Wi-Fi	2.4GHz WIFI: 2400~2483MHz ความถี่ในการดำเนินงาน: 5.1GHz WIFI: 5150~5250MHz; 5.8GHz WIFI: 5725~5850MHz
	2.4GHz WIFI: < 13dBm; เสาอากาศ (E.I.R.P.): 5.1GHz WIFI: < 13dBm; 5.8GHz WIFI: < 13dBm.
แบตเตอรี่	ความจุ: 1650 mAh พลังงาน: 6.35 Wh
อุณหภูมิใช้งาน	-20°C ถึง 40°C
อุณหภูมิในการชาร์จ	0°C ถึง 40°C
ความชื้นในการปฏิบัติงาน	≤80%RH

Tiếng Việt

Thông tin an toàn

* **Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm**

Xin vui lòng đọc Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này một cách cẩn thận. Sử dụng sản phẩm này có nghĩa là bạn thừa nhận và chấp nhận các điều khoản của tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này. Bằng cách sử dụng sản phẩm này, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của chính mình khi sử dụng sản phẩm này và mọi hậu quả của nó. Bạn đồng ý chỉ sử dụng sản phẩm này cho các mục đích hợp pháp và phù hợp. Bạn hiểu và đồng ý rằng Arashi Vision Inc. (sau đây gọi là 'Insta360') không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ và tất cả các hành vi sử dụng sai, hậu quả, thiệt hại, thương tích, hình phạt, hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp khi bạn sử dụng sản phẩm này và các phụ kiện đi kèm. Bạn đồng ý chỉ sử dụng sản phẩm này cho các mục đích hợp pháp và phù hợp. Nếu có bất kỳ thiệt hại hoặc bất thường nào, hãy ngừng sử dụng chúng ngay lập tức. Trong phạm vi luật pháp và quy định của nhà nước, Insta360 bảo lưu quyền giải thích và sửa đổi cuối cùng đối với cam kết.

Cảnh báo

① Máy ảnh này chứa nam châm. Hãy đảm bảo giữ nó cách xa máy tạo nhịp tim và các thiết bị

khác để tránh nhiễu sóng.

- ② Trước khi sử dụng máy ảnh, hãy đảm bảo rằng: pin đã được lắp đặt đúng cách, Nắp Pin và Nắp USB đã được đóng đúng cách. Máy ảnh sẽ không chống nước nếu không có những biện pháp này. Ngoài ra, hãy đảm bảo máy ảnh khô trước khi tháo pin ra. Nếu có nước trong cổng Type-C và khe cắm thẻ TF dưới nắp USB, hãy mở nắp USB, lau sạch và để nó tự khô trước khi sử dụng.
- ③ Máy ảnh chỉ nên được sử dụng ở nhiệt độ từ -4°F đến 104°F (-20°C đến 40°C).
- ④ Không sạc pin ngay sau khi sử dụng vì nhiệt độ của pin có thể quá cao. Nên đợi cho đến khi pin nguội xuống nhiệt độ phòng trước khi sạc. Sạc pin trong môi trường có nhiệt độ trên 104°F (40°C) hoặc dưới 32°F (0°C) có thể dẫn đến hiện tượng giãn nở, rò rỉ, quá nhiệt hoặc làm hỏng pin.
- ⑤ Có thể sạc pin khi đã lắp vào máy ảnh hoặc thông qua Trung tâm sạc nhanh. Sử dụng bộ chuyển đổi nguồn tuân thủ các thông số kỹ thuật của bộ sạc. Sử dụng bộ chuyển đổi nguồn tuân thủ các thông số kỹ thuật của bộ sạc.
- ⑥ Nếu không sử dụng máy ảnh trong ba tháng hoặc lâu hơn, pin có thể bị cạn. Vui lòng sạc máy ảnh để bật nó lên.
- ⑦ Không để máy ảnh gần nguồn nhiệt chẳng hạn như lò sưởi hoặc bếp. Không để bên trong xe vào những ngày nóng.
- ⑧ Không làm rơi hoặc đập vào máy ảnh và không đặt vật nặng lên trên máy ảnh.
- ⑨ Không cất giữ hoặc vận chuyển pin máy ảnh cùng với các vật kim loại như đồng hồ, chìa khóa và trang sức.

- ⑩ Nếu pin bị rơi vào nước, hãy đặt pin ở khu vực thoáng và an toàn và tránh xa pin cho đến khi pin khô hoàn toàn. Không sử dụng pin một lần nữa.
- ⑪ Không sử dụng pin bị biến dạng hoặc có bất kỳ dấu hiệu hư hỏng nào. Pin không thể được xử lý cùng với rác thải gia đình. Chúng phải được bỏ vào thùng tái chế được chỉ định. Vui lòng tuân thủ các quy định của địa phương về tái chế pin và vứt bỏ pin có trong sản phẩm này đúng cách.

Ghi chú

- ① Việc vô tình làm rơi máy ảnh có thể gây hỏng các thành phần bên trong và làm máy hoạt động không bình thường.
- ② Giữ máy ảnh cách xa cát và bụi.
- ③ Không được sử dụng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như bão lớn.
- ④ Không để máy ảnh hoặc pin ở nơi quá nóng hoặc quá lạnh. Nhiệt độ cao hoặc lạnh có thể tạm thời rút ngắn thời lượng pin hoặc khiến máy ảnh ngừng hoạt động.
- ⑤ Tránh thay đổi nhiệt độ hoặc độ ẩm đột ngột vì có thể hình thành hơi nước trên hoặc bên trong máy ảnh.
- ⑥ Khi sử dụng Đế dính, vui lòng chỉ gắn máy ảnh lên các bề mặt phẳng, khô và sạch. Có thể kết nối Giá đỡ dính linh hoạt với Giá đỡ tiêu chuẩn để lắp đặt camera. Khi tham gia vào các môi trường tốc độ cao hoặc cường độ cao, không nên sử dụng Giá đỡ dính linh hoạt với cột mở rộng, nếu không, máy ảnh và phụ kiện của bạn có thể rơi ra.
- ⑦ Khi sử dụng Gắn tiêu chuẩn trong các tình huống hành động có cường độ cao, đảm bảo máy

ảnh được cố định chặt chẽ và tránh va đập mạnh để ngăn chặn việc rơi hoặc bị hỏng.

- ⑧ Để làm sạch máy ảnh, chỉ sử dụng một chiếc khăn mềm khô. Không sử dụng bất kỳ sản phẩm làm sạch chất lỏng nào.
- ⑨ Bảo quản máy ảnh trong một môi trường khô.
- ⑩ Nếu bạn không có ý định sử dụng máy ảnh trong một thời gian dài, bạn nên tháo pin ra khỏi máy ảnh và cất riêng.
- ⑪ Không được phép sử dụng pin không được cung cấp chính thức bởi Insta360. Nếu bạn cần thay pin, vui lòng mua từ trang web chính thức của Insta360 hoặc các kênh được chúng tôi đề xuất. Insta360 sẽ không chịu trách nhiệm đối với các sự cố về pin hoặc lỗi sản phẩm do sử dụng pin không được Insta360 cung cấp chính thức.

Thông số kĩ thuật

Tên	Insta360 Ace Pro
Người mẫu	CINSAAJA
Đầu vào	5-9V \equiv 3A Max
Bluetooth	Tần suất hoạt động: 2402~2480MHz Công suất máy phát (E.I.R.P.): < 10dBm
Wi-Fi	Tần suất hoạt động: 2.4GHz WIFI: 2400~2483MHz 5.1GHz WIFI: 5150~5250MHz 5.8GHz WIFI: 5725~5850MHz
	Ăng-ten (E.I.R.P.): 2.4GHz WIFI: < 13dBm 5.1GHz WIFI: < 13dBm 5.8GHz WIFI: < 13dBm
Pin	Dung tích: 1650 mAh Năng lượng: 6.35 Wh
Năng lượng:	-20°C to 40°C
Nhiệt độ sạc	0°C to 40°C
Độ ẩm hoạt động	\leq 80%RH

Güvenlik Bilgileri

Feragatname

Lütfen bu Feragatname'yi dikkatlice okuyun. Bu ürünü kullanmak, bu feragatnamenin şartlarını kabul ettiğinizi ve onayladığınızı anlamına gelir.

Bu ürünü kullanarak, bu ürünü kullanırken kendi davranışınızdan ve buna bağlı sonuçlardan yalnızca sizin sorumlu olduğunuzu kabul ve onaylıyorsunuz.

Bu ürünü sadece uygun ve yasal amaçlar için kullanacağınızı kabul edersiniz. Arashi Vision Inc.'in (bundan sonra 'Insta360' olarak anılacaktır) bu ürünü ve ilgili aksesuarları kullanmanız sonucu doğrudan veya dolaylı olarak karşılaştığınız her türlü yanlış kullanım, sonuçlar, zararlar, yaralanmalar, cezalar veya diğer yasal sorumluluklar için hiçbir sorumluluk kabul etmediğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

Her kullanımdan önce, aksesuarlarınızın düzgün bir şekilde çalıştığından emin olun. Herhangi bir hasar veya düzensizlik varsa, hemen kullanmayı bırakın. Eyalet yasaları ve yönetmelikleri kapsamında, Insta360, taahhüt için nihai açıklama ve revizyon hakkını saklı tutar.

Uyarılar

- ① Bu kamera mıknatıs içerir. Cihazın kalp pili ve diğer cihazlarla etkileşimini önlemek için uzak tutulmasına dikkat edin.

- ② Kamerayı kullanmadan önce şunları sağladığınızdan emin olun: pil doğru bir şekilde takılmış, Pil Kapağı ve USB Kapağı doğru bir şekilde kapatılmıştır. Bu önlemler olmadan kamera su geçirmez değildir. Ek olarak, pili çıkarmadan önce kameranın kuru olduğundan emin olun. USB kapağının altındaki Type-C portunda ve TF kart yuvasında su varsa, USB kapağını açın, silin ve kullanmadan önce doğal olarak kurumasını bekleyin.
- ③ Kamera sadece -4°F ile 104°F (-20°C ile 40°C) arasındaki sıcaklıklarda kullanılmalıdır.
- ④ Kamerayı kullanımdan hemen sonra pil şarj etmeyin, çünkü pil sıcaklığı çok yüksek olabilir. Pilin oda sıcaklığına kadar soğumasını beklemek önerilir. Pilin 104°F (40°C) üzerinde veya 32°F (0°C) altındaki ortamlarda şarj edilmesi, pil genleşmesine, sızıntıya, aşırı ısınmaya veya pil hasarına yol açabilir.
- ⑤ Pili kamerada takılıyken veya Hızlı Şarj Hub'i aracılığıyla şarj edebilirsiniz. Şarj özelliklerine uygun bir güç adaptörü kullanın. Tamamen şarj olduktan sonra kamerayı veya pili çıkarmayı unutmayın.
- ⑥ Eğer kamera üç ay veya daha uzun süre kullanılmamışsa, pilin enerjisi tükenmiş olabilir. Kamerayı açmak için lütfen pilini şarj edin.
- ⑦ Kamerayı ısı kaynaklarına, örneğin bir ısıtıcıya veya ocaklara yakın bir yerde bırakmayın. Sıcak günlerde araç içinde bırakmayın.
- ⑧ Kamerayı düşürmeyin veya darbelemeyin ve üzerine ağır cisimler koymayın.
- ⑨ Kamera pillerini saatler, anahtarlar ve mücevher gibi metal nesnelere birlikte saklamayın veya taşımayın.
- ⑩ Eğer pil suya düşerse, güvenli bir açık alana koyun ve tamamen kuruyana kadar pilden uzak

tutun. Pili tekrar kullanmayın.

- ① Deforme olmuş veya herhangi bir zarar belirtisi gösteren pilleri kullanmayın. Pilleri evsel atıklarla birlikte atmayın. Onları belirlenmiş geri dönüşüm kutusuna yerleştirmeniz gerekmektedir. Lütfen pil geri dönüşümü konusundaki yerel yönetmeliklere uyun ve bu üründeki pilleri doğru şekilde imha edin.

Notlar

- ① Kamerayı düşürmek, iç bileşenlerine zarar verebilir ve anormal bir şekilde çalışmasına neden olabilir.
- ② Kamerayı kum ve tozdan uzak tutun.
- ③ Ağır fırtınalar gibi aşırı hava koşullarında kullanmayın.
- ④ Kamerayı veya bataryayı aşırı sıcak veya soğuk bir ortamda bırakmayın. Soğuk veya yüksek sıcaklıklar pil ömrünü geçici olarak kısaltabilir veya kameranın çalışmasını durdurabilir.
- ⑤ Kamerada yoğunlaşma oluşabileceği için dramatik sıcaklık veya nem değişikliklerinden kaçının.
- ⑥ Yapışkan Montajı kullanırken lütfen kamerayı sadece kuru, temiz, düz yüzeylere takın. Esnek Yapışkan Montaj, bir kamera kurulumu için Standart Montajla bağlanabilir. Yüksek hızlı veya yüksek yoğunluklu ortamlarda, Esnek Yapışkan Montaj bir uzatma direğiyle kullanılmamalıdır, aksi takdirde kameranız ve aksesuarlarınız düşebilir.
- ⑦ Yüksek yoğunluklu hareketli senaryolarda Standart Montajı kullanırken, kameranın güvenli olduğundan emin olun ve düşmesini veya zarar görmesini önlemek için şiddetli darbelerden kaçının.

- ⑧ Kamerayı temizlerken sadece yumuşak kuru bir bez kullanın. Herhangi bir sıvı temizleyici ürün kullanmayın.
- ⑨ Kamerayı kuru bir ortamda saklayın.
- ⑩ Eğer uzun bir süre boyunca kamerayı kullanmayı planlamıyorsanız, pilin kameradan çıkarılarak ayrı bir şekilde saklanması önerilir.
- ⑪ Insta360 tarafından resmi olarak sağlanmayan pillerin kullanımı yasaktır. Pilinizi değiştirmeniz gerekiyorsa, lütfen resmi Insta360 web sitesinden veya önerdiğimiz kanallardan satın alın. Insta360, resmi olarak sağlanmayan pillerin kullanımından kaynaklanan pil kazaları veya ürün arızalarından sorumlu olmayacaktır.

Özellikler

İsim	Insta360 Ace Pro
Model	CINSAAJA
Giriş	5-9V===3A Max
Bluetooth	Şletim Frekans: 2402~2480MHz Verici Gücü (E.I.R.P): < 10dBm
Wi-Fi	2.4GHz WIFI: 2400~2483MHz İşletim Frekans: 5.1GHz WIFI: 5150~5250MHz 5.8GHz WIFI: 5725~5850MHz
	2.4GHz WIFI: < 13dBm Anten (E.I.R.P): 5.1GHz WIFI: < 13dBm 5.8GHz WIFI: < 13dBm
Pil	Kapasite: 1650 mAh Enerji: 6.35 Wh
Çalışma sıcaklığı	-20°C to 40°C
Şarj sıcaklığı	0°C to 40°C
Çalışma nem oranı	≤80%RH

Compliance Information

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC SAR:

1. The radiated output power of this device is below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.

The exposure standard for wireless devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/Kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output. To avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna should be minimized.

For body worn operation, this model device has been tested and meets the FCC RF exposure. Guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 5mm from the body.

2. The maximum SAR value is 1.049W/kg when the device is used 5mm close to user.

IC STATEMENT

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference; and

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC SAR

For body-worn operation, the device has been tested and meets the IC RF exposure, The maximum SAR value is 1.049W/kg when the device used 5mm close to user.

Pour un fonctionnement porté sur le corps, l'appareil a été testé et répond à l'exposition aux RF IC, la valeur maximale de das est de 1.049W/kg lorsque l'appareil a utilisé 5mm près de l'utilisateur.

The device for operation in the band 5150–5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

les dispositifs fonctionnant dans la bande de 5150 à 5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.



Declaration of Conformity

Arashi Vision Inc. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at <https://www.insta360.com/euro-compliance>

Konformitätserklärung

Arashi Vision Inc. erklärt hiermit dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Eine Kopie der EU Konformitätserklärung ist online unter <http://www.insta360.com/euro-compliance> verfügbar.

Déclaration de conformité

Arashi Vision Inc. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible en ligne à l'adresse <http://www.insta360.com/euro-compliance>

Dichiarazione di conformità

Arashi Vision Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE. Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo <http://www.insta360.com/euro-compliance>

Declaración de Conformidad

Por la presente Arashi Vision Inc. declara que este producto cumple los requisitos esenciales y

outras disposições relevantes da Directiva 2014/53/EU. Uma cópia da Declaração UE de conformidade está disponível online em <http://www.insta360.com/euro-compliance>

Declaração de Conformidade

Arashi Vision Inc. declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da diretiva 2014/53/UE. Uma cópia da Declaração de Conformidade da UE está disponível online em <http://www.insta360.com/euro-compliance>

Декларация о Соответствии

Настоящим, Arashi Vision Inc. заявляет что данный продукт соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям директивы 2014/53/ЕС. Копия Декларации о Соответствии ЕС доступна в Интернете по адресу <http://www.insta360.com/euro-compliance>.

GB Compliance Statement

Arashi Vision Inc. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirement and other relevant provisions of Radio Equipment Regulations 2017. A copy of the GB Declaration of Conformity is available online at <http://www.insta360.com/euro-compliance>

GB Compliance-Erklärung

Arashi Vision Inc. erklärt hiermit dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Radio Equipment Regulations 2017 erfüllt. Eine Kopie der GB Konformitätserklärung ist online unter <http://www.insta360.com/euro-compliance> verfügbar.

Déclaration de conformité GB

Arashi Vision Inc. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes du Règlement sur les équipements radio de 2017. Une copie de la déclaration de conformité GB est disponible en ligne à l'adresse <http://www.insta360.com/euro-compliance>

Dichiarazione di conformità GB

Arashi Vision Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti alle leggi sulla apparecchiatura radio del 2017. Una copia della dichiarazione di conformità (GB) è disponibile online all'indirizzo <http://www.insta360.com/euro-compliance>

Declaración de cumplimiento de GB

Por la presente Arashi Vision Inc. declara que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la "Radio Equipment Regulations 2017". Una copia de la Declaración de cumplimiento de GB está disponible online en <http://www.insta360.com/euro-compliance>

Declaração de Conformidade GB

A Arashi Vision Inc. declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes dos Regulamentos de Equipamentos de Rádio de 2017. Uma cópia da Declaração de Conformidade GB está disponível online em <http://www.insta360.com/euro-compliance>

Заявление о Соответствии Великобритании

Настоящим Arashi Vision Inc. заявляет что этот продукт соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Правил Радиооборудования 2017 года. Копия Декларации Соответствия Великобритании доступна в Интернете по адресу <http://www.insta360.com/euro-compliance>

The device is restricted to indoor use when operated in the European Community using frequency 5150MHz~5250MHz to reduce the potential for interference.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE
	IE	EL	ES	FR	HR	IT
	CY	LV	LT	LU	HU	MT
	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK(NI)	TR	NO
	CH	IS	LI			

	UK
--	----



WEEE Directive

Correctly dispose of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU/UK. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To safely recycle your device, please use return and collection systems or contact the retailer where the device was originally purchased.

WEEE-Richtlinie

Entsorgen Sie dieses Produkt ordnungsgemäß. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der EU/im Vereinigten Königreich nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um eventuelle Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Gerät sicher zu recyceln, nutzen Sie bitte Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät ursprünglich gekauft haben.

Directive DEEE

Veillez jeter correctement ce produit.Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE/le Royaume-Uni. Pour éviter tout dommage lié à l'environnement ou à la santé humaine du à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.Pour recycler votre appareil en toute sécurité, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel l'appareil a été acheté.

Direttiva WEEE

Come smaltire correttamente questo prodotto. Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE/Regno Unito. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute dovuti allo smaltimento abusivo dei rifiuti, assicurati di riciclare responsabilmente questo prodotto al fine di riutilizzare i materiali. Per riciclare in sicurezza il tuo dispositivo, utilizza i sistemi di ritiro e restituzione o contatta il rivenditore dal quale hai acquistato il prodotto.

Directiva WEEE

Desecha correctamente este producto. Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en la UE/UK. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación no controlada de desechos, recicla de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para reciclar tu dispositivo de manera segura, utiliza los sistemas de devolución y recolección o comunícate con el minorista donde compraste originalmente el dispositivo.

Diretiva WEEE

Descarte corretamente este produto. Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em toda a UE/UK. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana decorrentes do descarte descontrolado de resíduos, recicle com responsabilidade para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para reciclar seu dispositivo com segurança, use os sistemas de devolução e coleta ou entre em

contato com o revendedor onde o dispositivo foi comprado originalmente.

Директива WEEE

Правильно утилизируйте этот продукт. Эта маркировка указывает на то, что данное изделие не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС/Великобритании. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к переработке, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы безопасно утилизировать устройство, используйте системы возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого было первоначально приобретено устройство

Japan Warning message

5.2 GHz band is restricted to indoor use only

電波法により 5.2 GHz 帯は屋内使用に限ります。

To find camera's Regulatory Information, please swipe down touch screen on your camera, then tap Settings > Certification.

相机屏幕预览页面下拉快捷菜单，点击进入设置 > 法规认证，即可看到认证信息。

相機屏幕預覽頁面下拉快捷菜單，點擊進入設定 > 法規認證，即可看到認證信息。

Um die Zulassungsinformationen der Kamera zu finden, wischen Sie bitte auf dem Touchscreen Ihrer Kamera nach unten und tippen Sie dann auf Einstellungen > Zertifizierung.

Pour trouver les informations réglementaires de la caméra, faites glisser vers le bas l'écran tactile de votre caméra, puis appuyez sur Réglages > Certification.

使用過度恐傷害視力，注意：

- 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
- 未滿 2 歲幼兒不看屏幕，2 歲以上每天看屏幕不要超過 1 小時。

NCC Compliance Notice

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。應避免影響附近雷達系統之操作。

設備名稱 Equipment name: Insta360 Ace Pro 運動相機

型號 (型式) Type designation (Type):

主型號: CINSAAJA

系列型號: CINSAAJB, CINSAAJC, CINSAAJD, CINSAAJE, CINSAAJF

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
鏡頭	○	○	○	○	○	○
PCB 板	-	○	○	○	○	○
螺絲	-	○	○	○	○	○
電子線	-	○	○	○	○	○
配件	-	○	○	○	○	○

備考 1. "超出 0.1 wt %" 及 "超出 0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. "-" 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
镜头	○	○	○	○	○	○
线路板	X	○	○	○	○	○
金属部件	X	○	○	○	○	○
内部线材	X	○	○	○	○	○
配件	X	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。（产品符合欧盟 ROHS 指令环保要求）



Insta360 GmbH **EC REP**  **CARTA**

Gartenfelder Straße 29-37, Gebäude 31/31.12
1.OG, 13599, Berlin, Germany

+49 177 856 7813 service@insta360.com

